عملیاتِ اشرفی

اسلامیہ بک ڈپو

محمد اویس الرحمٰن لطیفی رضوی عاشقی
چترویدی دین نگرپور ضلع مرادآباد یوپی
Whats APP.N. 09412422176

مکمل
عملیاتِ اشرفی

ماخوذ

از بیاض قدوۃ السالکین افضل العلماء حضرت مولانا حکیم سید
شاہ عبدالحیٔ اشرف رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشیں حضرت مخدوم
سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

مرتبہ

مولانا حکیم سید شاہ **فخرالدین اشرف** اشرفی الجیلانی سجادہ نشیں
آستانہ عالیہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ
درگاہ رسول پور بسکھاری شریف (کچھوچھہ) ضلع امبیڈکر نگر، یو۔پی

باہتمام: محمد مشاہد حسین قادری، بلیاوی

ناشر

عرضِ ناشر

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں۔

عوام کی خدمت میرا ذریعۂ معاش ہے۔ مکمل عملیاتِ اشرفی کے ذریعہ کس کی کتنی خدمت ہو سکے گی اس کا اندازہ ناظرین کریں گے۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عامل کی تخلیق ہیئت کرنے میں لوہے کے چنے چبانے پڑے ہیں۔

لہٰذا نقال سے گذارش ہے کہ کسی بھی نسخہ کی نقل کر کے فیض آباد کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا ہونے کی زحمت نہ کریں، اور نہ ہی قیامت کے دن سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حاجی الحرمین عبدالرزاق نورالعین اور مرشد شیخ فخرالدین اشرف اشرفی کے روبرو بصورت مجرم کھڑے ہوں

اگر اس کتاب میں کوئی غلطی یا خامی پائیں تو براہ کرم صاحب مصنف کو آگاہ کردیں تاکہ دوسری اشاعت میں تصحیح ہو سکے

فہرست مضامین

مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
عرض ناشر	۲	نقش برائے اعمال حب وتسخیر	۳۸
پیش لفظ	۷	برائے موافقت زن وشوہر	۵۳
مقدمہ (اللہ اکبر)	۸-۹	برائے تسخیر وحب	۵۴
حضرت مخدوم سلطان سید اشرف	۱۰	دفع دشمنان	۵۷
حضرت حاجی عبدالرزاق نورالعین	۱۵	برائے عداوت ودشمنی	۶۱
مختصر سوانح قدوۃ السالکین	۱۷	تباہی وبربادی دشمنان	۶۴
ہدایات برائے عامل	۲۰	برائے استخارہ	۷۰
لوازمات نقوش	۲۱	برائے فتوح رزق	۷۳
نقش کے اقسام اور اسکی اہمیت	۲۴	کشائش رزق	۷۴
تعویذات کے اقسام	۲۶	برائے فتوحات ودست غیب	۷۷
نقوش کا طریقۂ استعمال	۲۸	برائے ترقی تجارت	۷۷
نقش بھرنے کے اصول	۲۹	دفع تنگیٔ رزق	۷۹
حروف تہجی کے اعداد	۳۱	برائے حافظہ	۷۹
طریق التزام رجال الغیب	۳۲	امتحان اور مقدمے کی کامیابی کیلئے	۸۲
حل المشکلات	۳۴	گمشدہ ومفرور کیلئے	۸۴

مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
دوکان، مکان، جان و مال کی حفاظت	۸۸	مٹی کھانے کی عادت	۱۰۰
ڈراؤنا خواب	۹۰	ضدی بچوں کیلئے	۱۰۱
باب الصلوٰۃ من الحاجات	۹۲	بہرا گونگا ہونا	″
نماز حاجت	۹۲	سوکھے کے مرض کیلئے	۱۰۲
نماز رزق	۹۳	جو بچہ کمزور رہو	″
نماز قلب	۹۳	برائے چیچک	۱۰۳
صلوٰۃ الشفا۔ نماز اسرار	۹۴	نظر بد	۱۰۴
برائے قضا حاجت۔ نماز کرامت	″	کانچ نکلنا یا مقعد کی خارش	″
عورتوں کے ایام بند	۹۵	زہر اتارنے کیلئے	۱۰۵
برائے حمل اسقاط	۹۶	بچھو کا زہر	″
محافظ حمل	″	عمل سانپ جھاڑنے کا	۱۰۶
برائے زیادتی شیر	۹۷	شفاء امراض کیلئے	۱۰۷
برائے فرزند نرینہ	″	پیٹ میں کیڑا یا کدو دانہ	″
بانجھ عورت کا علاج	۹۸	برائے دفع کالی کھانسی	۱۰۸
برائے خلاصی	۹۹	برائے روشنئ چشم	″
برائے درد شکم	″	بخار کیلئے	″
چھوٹے بچوں کے لئے	۱۰۰	ہر قسم کے بخار کیلئے	۱۰۹

مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
میعادی، ٹائیفائڈ، موتی جھرہ	۱۱۰	برائے رجعت	۱۲۵
پسلی چلنا یا نمونیہ	″	شراب چھوڑنے کے لئے	″
کان کا درد	۱۱۱	سحر یا جادو کا اثر	″
ہر طرح کا درد	″	دعائے سیفی	″
درد سر	۱۱۳	بری عادت چھڑانے کیلئے	۱۲۶
دل کی گھبراہٹ کیلئے	۱۱۵	زیارت بزرگان دین	″
دفع درد پیٹ و قبض	۱۱۶	چندری یا زہر باد کا مریض	۱۲۷
برائے پیچش	۱۱۷	کشف القبور	″
ناف کا ٹلنا	″	جانوروں میں وبا	۱۲۸
قوت ہاضمہ	۱۱۸	رجعت سے محفوظ رہنے کا عمل	۱۲۹
بواسیر خونی، بادی	۱۱۹	زیارت حضرت خضر علیہ السلام	۱۳۰
برائے طحال	۱۲۱	آب حیات	″
برائے تپ و لرزہ و مرگی	″	برائے دفع چوہا	″
برائے دفع چیچک	۱۲۲	اسی سال کے گناہ معاف	۱۳۱
نظر بد اور دیگر تمام بیماریوں کیلئے	″	برائے حصار	″
برائے دفع خارش	۱۲۳	برائے کشف	۱۳۲
برائے دفع بندی پیشاب	″	برائے دافع بلیات جن و آسیب	۱۳۳
برائے سیلان منی	۱۲۴	دافع سحر	۱۳۴
برائے حصول غنا	″	نقش چہل کاف	۱۳۵

مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
دفع دیو و سحر	۱۳۶	حاضرات فاخر شاہ	۱۶۱
برائے سحر۔ لطائف اشرفی	۱۳۹	عمل یا وہاب	۱۶۲
برائے جادو ٹونہ	۱۴۰	دین و دنیا کے آفات سے نجات	۱۶۳
شناخت آسیب و سحر و جن	۱۴۱	ختم خواجگان چشت	۱۶۴
آسیب نظر آئے گا	۱۴۲	عمل برائے تسخیر القلوب	۱۶۵
آسیب ظاہر ہوگا حاضر ہوگا	۱۴۴	مکان کی بنیاد رکھنے کی خواص	۱۶۶
طریقہ سحر و جادو دریافت کرنیکا	۱۴۵	مکان کے سعد و نحس کیلئے	۱۶۷
اسناد جہل کاف	۱۴۸	طبی نسخے	۱۶۸
آسیب کا حصار	۱۵۰	برائے درد گردہ ، ہاتھ پیر کی جلن	،،
شادی کے پیغام کثرت سے آئیں	۱۵۲	قوت باہ	،،
اولاد کیلئے مجرب عمل	۱۵۵	دانت کا درد ، ذیابیطس	۱۶۹
حمل کا قرار نہ پکڑنا	۱۵۶	برائے امساک ، برائے فالج	۱۷۰
سانپ کاٹنے کا مجرب عمل	۱۵۷	برائے جریان ، بواسیر	،،
متفرقات	۱۵۸	برائے اولاد ۔	۱۷۱
دعاء اسم اعظم	،،	دمہ	۱۷۱
برائے آسیب زدہ	۱۵۹	تیل برائے لقوہ	،،
فلیتہ خاص حضرت مخدوم ؒ	،،	سفید داغ و دیگر امراض	۱۷۳ تا ۱۷۵
برائے دشمنان	،،	برائے عارضہ شکم	۱۷۶
برائے عزت و جاہ	۱۶۰	برائے پتھری	۱۷۲

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ۔ اما بعد۔ حضرت مولانا حکیم سید شاہ عبدالحی اشرف سجادہ نشین درگاہ کچھوچھہ شریف اپنے دور کے ایک جید عالم شاعر اور صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔ آپ نے اپنے دور میں بہت سی کتابیں لکھیں اور ترجمے بھی کئے۔ ان میں عملیات کا یہ مجرب نسخہ بھی شامل ہے۔

میں نے حضرت سجادہ نشین کی اسی بیاض سے کچھ نسخہ جات اور دعاؤں کا انتخاب کیا ہے جسے حضرت مولانا اپنے مریدوں کو پڑھنے کے لئے اور تعویذ کی شکل میں لکھ دیا کرتے تھے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اسکے شائع کرنیکا مقصد یہ ہیکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کرسکیں۔

عملیات اشرفی بفضلہ تعالیٰ عوام میں بیحد مقبول ہوئی تھی اور اب مزید نظر ثانی و اضافہ کیساتھ شائع کی جارہی ہے۔ اسمیں اوراد و وظائف طریقہ عملیات و سلسلہ اشرفیہ کے دیگر مجرب دعاؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ خواص و عوام زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں اور اپنے ذہن و قلوب کو روشن کریں۔

واللّٰہ اعلم بما فی الغیوب و مطلع علیٰ ما فی السرائر

بندۂ ناچیز سید شاہ فخر الدین اشرف

مقدمہ

اَللّٰہُ اَکْبَر

اَلحمدُ للہِ رَبِّ العَالمین وَالصَّلوٰۃُ وَالسَّلامُ علیٰ سَیّدِ المرسلین خاتم النَّبیّین سیّدنا مولانا محمد وّآلہٖ وصحبہٖ متکاثراً ومتوالیاً وّسرمداً۔

روحانی قوتوں سے کام لینا۔ روحانی اعمال تیار کرنا تکلیف کے لئے تعویذات جھاڑ پھونک کا نظریہ زمانہ قدیم سے ہر قوم میں رائج ہے۔ آج جبکہ سائنس کا دور اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ ان تعویذات۔ دم وغیرہ کے خلاف ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان سے کام لیتے ہیں۔ لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ مہذب لوگوں میں اس قوت کو تسلیم کرنے کی ضرورت جو پہلے تھی وہ اب بھی موجود ہے۔

بوقت ضرورت اعمال اختیار کرنا اور نقوش لکھنا جائز کام ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لئے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے گلوں میں تعویذ ڈالا کرتے تھے۔ حدیث شریف کا مطالعہ کریں تو دعائیں، درود اور وظائف کا عظیم ذخیرہ مختلف امراض وتکالیف کیلئے پائیں گے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی نے اپنی کتاب فوائد قرآنیہ میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی مصیبت در پیش ہو تو

حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْل پڑھا کرو۔ عبد اللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دس کلمات صبح کی نماز کے بعد ہمیشہ ورد رکھے تو اس کی دس حاجتیں روا ہوں۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی کتاب "ارشاد الاخوان" میں تحریر فرمایا ہے۔ کہ جس شخص نے دعاؤں کے پڑھنے میں مداومت اختیار کی تو گویا وہ عبادت میں مشائخ سلف و پیران چشت یعنی شیخ مودود چشتی اور شیخ فرید الدین گنج شکر شیخ نظام الدین اولیاء۔ اور شیخ علاؤ الحق طاب اللہ ثراہم وجعل الجنۃ مثواہم کی موافقت کرنے والا ہو گا۔

انحطاط کے اس دور میں جبکہ ہر طرف پیسہ کا رجحان بڑھ رہا ہے جس سے تمام تر دماغی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ان میں بلڈ پریشر۔ شوگر۔ دماغی بیماریاں ہارٹ اٹیک وغیرہ شامل ہیں ان سے بچنے کیلئے اللہ پر یقین اعمال و تعویذات اور بزرگان دین کے مزارات پر حاضری بہت ہی مجرب ثابت ہوئی ہے۔ اور لوگوں کو ذہنی تناؤ سے نجات دلاتی ہے۔ چونکہ لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہے انسانی کام و تنگیٔ وقت کی اس رفتار کو مدنظر رکھ کر روحانی اعمال میں بھی ایسے طریقوں کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے جس میں وقت کم صرف ہو۔ قوت زیادہ ہو اور سائنسی نظریے سے بھی وہ درست ہوں اور ہر شخص جب چاہے اپنی ضرورت کے مطابق ان سے کام لے سکے۔ دھوکہ باز اور جاہل نام نہاد عاملوں سے محفوظ رہ کر مقصد حاصل کر سکے اور اس چکر سے نکل سکے۔

وَمَا توفیقی اِلّا باللّٰہ

سید شاہ فخر الدین اشرف

حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی

چونکہ اس کتاب کے رہبر اعظم غوث العالم امیر کبیر تارک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرۃ العزیز ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے آپ کا تذکرہ ایک مستحسن اقدام ہوگا اور باعث خیر و برکت بھی۔

پانچویں صدی ہجری سے علماء و مشائخ پوری دنیا سے ہندوستان کی طرف آنا شروع ہوئے۔ اُن کا مقصد ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ شریعت اور طریقت کی تعلیم دینا تھا۔ ان بزرگوں میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سرفہرست ہے۔ آپ سمنان (ایران) سے بحکم سرور انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندستان آئے اور اپنے تبلیغی مشن سے ہزاروں گم کردہ راہوں، صاحبان سبحہ و زُنّار اور بدعقیدوں کو ایمان کی ابدی دولت سے سرفراز کیا اور ان کو نجات کی یقینی ضمانت دی آج بھی آپ کا مرقد مبارک مرجع خلائق ہے جہاں پر ہزاروں ذہنی بیماریوں سے پریشان، آسیبی امراض سے عاجز، جسمانی اعتبار سے نحیف و نزار، افراد شفا حاصل کرتے ہیں اور جن کا قلب بیمار ہو وہ اپنے قلب کو آپ کے رُوحانی تصرف سے منور کرتے ہیں۔ مورخین نے ان الفاظ میں آپ کی تعریف کی ہے۔

"آپ یگانۂ روزگار تھے۔ شان رفیع ہمت بلند کرامات وافر کے مالک تھے۔ سُلطان المشائخ کے بعد شیخیت اور ہدایت کے سلسلہ کو آپ نے از سرِ نو زندہ کیا۔ حقائق کے بیان میں آپ کلام الٰہی احادیث نبوی اقوال مرتضوی اور اصحاب کرام کے ترجمان تھے۔ آپ حضرت شیخ علاء الحق والدین بنگالی قدس سرہٗ کے مرید و خلیفہ تھے۔" [۱]

"کشف و کرامات منازل مقامات کے آپ مالک تھے۔ آپکے بیان سے عرفان کا آب حیات بنتا تھا۔ آپ کے دل سے شوق محبت کے شعلے اٹھتے تھے۔" [۲]

"لوگ آپکو سید جہانگیر کہا کرتے تھے۔ آپ صاحب کرامات و تصرف اور بڑے کامل ولی اللہ تھے۔ آپ سید علی ہمدانی کے رفیق سفر رہے تھے بالآخر ہندوستان آکر شیخ علاء الدین کے مُرید ہوئے۔ مرید ہونے سے قبل ہی آپ کشف و کرامات کے مقام عُلیا حاصل کرچکے تھے۔ حقائق اور توحید کے بارے میں آپ بڑی بلند باتیں بیان فرمایا کرتے تھے" [۳]

ملک محمد جامی فرماتے ہیں۔ "صدیقین اُمتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دو کس بہ سبب ترک سلطنت بر جمیع اولیاء اللہ فضیلت دارند حضرت سُلطان العارفین ابراہیم بن ادہم و سلطان سید اشرف جہانگیر

---

[۱] مراۃ الاسرار مؤلفہ حضرت عبدالرحمٰن چشتی

[۲] اذکار ابرار لاہور ص ۱۳۵

[۳] اخبار الاخیار مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی

سمنان کچھوچھوی قدس سرہ العزیز

حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ۷۰۰ ہجری میں سمنان (ایران) میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم تھا وہ سمنان کے سلطان (بادشاہ) تھے جو ایک کامل ولی اللہ تھے ۔ ۷ سال کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کیا ۔ ۱۴ سال کی عمر شریف میں تمام علوم دینی میں فارغ التحصیل ہوئے ۱۷ سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد تخت حکومت پر متمکن ہوئے اور ۱۰ سال تک حکومت کی ۔ ۲۷ سال کی عمر میں حضرت خضر علیہ السلام کی بشارت پر حکومت ترک کردی ۔ والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کر کے ہندوستان کی طرف سفر کیا اور اس زمانہ کے جید اکابرین روزگار سے ملاقات کرتے ہوئے وارد پنڈوہ شریف ہوئے اور شیخ علاء الحق والدین کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے ۔ خلافت سے سرفراز ہوئے خواجگان چشت کے تبرکات حاصل کئے ۔ ۳۰ سال تک دنیا کے مختلف حصوں کی سیاحت فرمائی ۔ ۱۴ خانوادوں کے اکابر اولیاء اللہ سے خلافت و خرقہ حاصل فرمایا اور مرتبۂ غوثیت پر فائز ہوئے ۔ کچھوچھہ شریف کو اپنا مستقر بنایا جو نواح اجودھیا ضلع فیض آباد میں ہے ۔ ۸۰۸ھ میں جوار قدس کو راہی ہوئے [1]

علمی خدمات حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک متبحر عالم تھے ۔ آپکی علمی خدمات کچھ موجود ہیں اور کچھ ناپید نزہۃ الخواطر جلد ثالث میں ۲۹ کتابوں کا نام آپ کے نام کے ساتھ ذکر ہے ۔ چند کتابوں کے

---

[1] تفصیل کے لئے لطائف اشرفی کا مطالعہ کریں ۔

نام مندرجہ ذیل ہیں[1] ۔ تفسیر قرآن فصوص الحکم کی شرح خود حضرت کا ایک دیوان اشرف الکلام مراۃ الحقائق کنز الدقائق تصانیف میں مختصر رسائل بھی ہیں اور ضخیم کتابیں بھی ۔

مکتوبات گرامی :۔ مکتوبات کا یہ مجموعہ جناب سید شاہ فخر الدین اشرف متولی و سجادہ نشین کے ذاتی ذخیرہ میں موجود ہے ۔ پورا مجموعہ مع مقدمات و مکتوبات کے مرتب کے گراں قدر اضافات پر مشتمل ہے ۔ مقدمہ سے یہ حیثیت آشکار ہوتی ہے کہ ترتیب و تدوین کا کام دو اصحاب کے ہاتھوں پایۂ تکمیل کو پہنچا ہے ۔ اس کے جامع اول حضرت نظام یمنی جو حضرت کے مرید و خلیفہ تھے اور جامع ثانی حضرت حاجی عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ تھے ۔ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے بعد جو قطعہ تاریخ کہا گیا ہے اس کا آخری شعر اس طرح ہے ۔

چوں مکتوبات ثانی یافت ترکیب
پے تاریخ مکتوبات آمد ۸۶۹ ہجری

مخدوم صاحب کے خطوط کا مطالعہ تصوف اور تعلق مع اللہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے ۔ اسمیں صوفی کے قلب کا سوز و گداز بھی ملتا ہے اور تحقیق و تدقیق کی چاشنی بھی ۔

لطائف اشرفی :۔ لطائف اشرفی حضرت مخدوم صاحب کے

---

[1] اشرف سمنانی شخصیت اور افکار میں آپکی مکمل کتابوں کی فہرست ہے ۔

ارشادات ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ جو آپ کے مرید خاص حضرت شیخ نظام یمنی نے نویں صدی ہجری میں قلم بند کئے تھے وہ اس طرح کہ جو ارشادات آپ کی زبان مبارکہ سے نکلتے تھے وہ اس کو لکھ لیتے تھے بعد میں اس کی نظر ثانی حضرت مخدوم صاحب خود فرماتے تھے۔ یہ تصنیف طبقۂ صوفیاء میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اور فارسی انشاء پردازی کا بہترین نمونہ ہے۔

خدمات اردو ادب :- آپ نے اردو ادب کیلئے بھی گراں قدر سرمایہ چھوڑا ہے۔ اردو ادب کے ناقدین اور مؤرخین نے آپ کے رسالہ اخلاق و تصوف، کو شمالی ہند کا اردو ادب کا سب سے پہلا رسالہ تسلیم کیا ہے۔

اس کے علاوہ آپ نے فارسی میں اشعار بھی کہے ہیں۔ آپ کی وفات ۲۸ محرم الحرام ۸۰۸ھ میں ہوئی۔ آپ کا مرقد مبارک آج بھی حصول فیض و برکت کا سرچشمہ ہے۔ تمام بلائیں آسیبی امراض اور جادو وسحر کے دفعیہ کیلئے اکسیر ہے۔

سید شاہ فخر الدین اشرف
اشرفی الجیلانی سجادہ نشین آستانہ مخدوم سید اشرف جہانگیر
سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

اشرف الدقانی حضرت حاجی عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ

اشرف الدقانی حضرت نور العین کا شمار اکابرین روزگار میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت مخدوم سمنانی کے فرزند معنوی اور قریبی بھانجے تھے۔ آپ نے حضرت مخدوم سمنانی کے رشد و ہدایت کے چراغ کی لو تیز کی اور اسکی روشنی سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ ان کی روشن کی ہوئی قندیل سے آج بھی صاحبان معرفت اپنے قلوب کو مجلّٰی کر رہے ہیں۔

آپ حضرت مخدوم سمنانی کی خالہ زاد بہن کے فرزند تھے۔ پدر بزرگوار کا نام سید عبد الغفور گیلانی تھا جو خانوادہ غوث پاک سے تعلق رکھتے تھے حضرت مخدوم صاحب جب عراق تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی ملاقات عبد الغفور گیلانی سے ہوئی اور وہیں آپ نے حضرت نور العین کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیا اور اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فرد گذاشت نہیں کیا۔ حضرت سید اشرف فرماتے ہیں میرے اور اس کے درمیان جو قربت ہے اسکی شرح محال ہے۔ آپ حضرت نور العین سے بڑی محبت اور الفت فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

"چہ نور دیدہ ایم از نور دیدہ بہ نور دیدہ باشد"

نور دیدہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا نور دیکھا ہے جو میری آنکھوں کا نور بن گیا۔

حضرت نورالعین بارہ سال کی عمر میں حضرت مخدوم کی بارگاہ میں آئے آپ کے روحانی فیوض وبرکات سے اپنے قلب کو اڑسٹھ سال تک مجلی کیا آپ نے حضرت مخدوم کے اقوال وافکار وروحانی تصرفات کے آب حیواں سے اپنے قلب کی آبیاری کی. ایک جگہ حضرت مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ "میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تجھ پر نثار کیا اور تجھ سے کوئی خیر دریغ نہیں کی" اور جب حضرت مخدوم صاحب سفر آخرت کی طرف کوچ فرمانے لگے تو آپ کو اپنا جانشین وخلیفہ مقرر کیا۔

ایک جگہ فرماتے ہیں کہ "اگر فرزندان نورالعین قانع رہیں گے تو میں حیات وممات میں انکی مدد کروں گا۔"

حضرت مخدوم صاحب کے بعد حضرت نورالعین کی اولادوں سے آپکا خاندان روشن ہے. حضرت نورالعین کے پانچ فرزند ہوئے جو سعادت وبزرگی میں یگانہ روزگار تھے جو آگے چلکر نورانیت میں مثل چراغ اور لطائف میں مثل قندیل بنے. سجادگی کا سلسلہ حضرت شاہ حسین سے چلا جو آپ کے دوسرے صاحبزادے تھے. چنانچہ آج بھی مسند سجادگی پر آپ کی اولاد متمکن ہے اور اس وقت حضرت مولانا سید شاہ فخرالدین اشرف انیسویں سجادہ نشین ہیں جنکی برکت سے ایک جہان فیضیاب ہو رہا ہے۔

از:-

سید مظہر الدین اشرف ایم اے علیگ

مختصر سوانح قدوۃ السالکین حضرت مولانا شاہ سید عبدالحی اشرف سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ

سلسلۂ اشرفیہ کی شاخیں یوں تو متعدد صوبوں اور شہروں میں موجود ہیں لیکن مرکزی حیثیت دو قصبات کو حاصل ہے. بسکھاری اور درگاہ رسول پور' جو بیرونی ممالک میں کچھوچھہ شریف کے نام سے مشہور ہے. ان قصبات کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ کے قدم مبارک سے افتخار حاصل ہونے کے ساتھ ہی آپکے خاندان کے وحید العصر علماء، صوفیاء، پیران طریقت فقہاء کے ممتاز طبقہ کا مولد ومسکن ہونے کی وجہ سے تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ آسودگان خاک روح آباد دنیائے حسن وسلوک وصفا کے روشن مینار رہے تھے.

برصغیر کی تہذیب ثقافت کی تاریخ ہو یا علوم وفنون کا تذکرہ، تزکیۂ باطن کے بزرگوں کی فہرست ہو یا مشاہیر روزگار کے صحیفے، ہر جگہ اس خاندان کے لوگوں نے اپنے انمٹ نقوش رقم کئے ہیں. خاندان اشرفیہ کے افراد کا نسبی تعلق حضرت حاجی عبدالرزاق نورالعین سے ہے جو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر کے خالاتی بھانجے اور فرزند معنوی تھے. جن کا شجرہ نسب حضور غوث الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے.

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر نے دوران سفر عراق آپ کو اپنی فرزندی میں قبول کیا تھا. انکی تربیت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا. آپ کو نورالعین کا خطاب بھی عطا فرمایا. حضرت حاجی عبدالرزاق نورالعین معرفت حق کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے حضرت مخدوم سمنانی کی تربیت میں ان کے علوم مرتبت کی دلیل ہے.

حضرت نورالحق کے پانچ صاحبزادے ہوئے جو عظمت وبزرگی کے اعلیٰ زیور سے آراستہ تھے. حضرت کے دوسرے صاحبزادے سید شاہ حسین قتال کو سجادگی کا منصب اور دولت لنگر کی دیکھ بھال سے نوازا گیا. مرآۃ الاسرار کے مصنف شیخ عبدالرحمن چشتی رقم طراز ہیں.

"حضرت سید عبدالرزاق کی وفات کے بعد میر سید حسین اپنے والد کے قائم مقام ہوئے چنانچہ انہیں کے فرزند آستانہ مبارک کے سجادہ ہیں"

دوسری جگہ فرماتے ہیں: "میر سید حسین کی اولاد میں اکثر صاحبان کمال ظاہر ہوئے اسکی تفصیل کہاں تک لکھوں"۔

بقول حضرت شیخ عبدالرحمن چشتی مصنف مراۃ الاسرار اور شاہ وجیہہ الدین امیٹھوی مصنف تاریخ بحر ذخار کے "میر سید حسین کی اولادوں میں صاحب کمال لوگ گذرے ہیں"۔

فضائل وکمالات کی ایسی ہی جامع شخصیت میں حضرت مولانا سید شاہ عبدالحی اشرف سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو مرشد کامل، پیر طریقت، جامع شریعت وطریقت اور طبیب حاذق تھے۔ اطبائے قدیم کی روایات وعظمت کا بے مثال نمونہ تھے۔ شعر وشاعری سے بھی آپکو لگاؤ تھا۔ ہوش تخلص کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی ایک شب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی زیارت سے مستفیض ہوئے تو عالم خواب میں نعت کا یہ شعر کہا۔

مجھے ہوش نعت کا اذن بھی جو ہوا تو عالم خواب میں
شب مغفرت کی نوازشوں میں شریک ماہ صیام تھا ۱۹۳۴ء

آپ حضرت مولانا وجیہہ الدین اشرف سجادہ نشین درگاہ حضرت مخدوم صاحب کے فرزند ارجمند تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی اس کے بعد عربی ادب کی تعلیم کیلئے لاہور تشریف لیگئے پھر کچھ دن فرنگی محل کے مدرسے میں مزید علم عقلیہ اور نقلیہ کی قدیم وجدید کتابوں کا مطالعہ کیا اور دسترس حاصل کی۔ وہاں سے آنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ رہکر تصوف وسلوک کی تعلیم حاصل کی۔ والد کے ساتھ چند عرصہ رہ کر حکمت کی مزید تعلیم کیلئے حیدرآباد تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ مطب میں وقت دینے لگے۔ والد کے پیش نظر جو علمی ومذہبی کام تھے ان میں حصہ لینے لگے اور انکی تکمیل کی۔

سنہ ۱۹۳۶ء میں اپنے والد ماجد اور پیر ومرشد حضرت مولانا وجیہہ الدین اشرف قدس سرہٗ کی وفات کے بعد اکابرین ومشائخ کی موجودگی میں منصب سجادگی پر متمکن ہوئے اور تیس سال تک اس منصب پر فائز رہے اور اپنے روحانی فیوض وبرکات سے مریدین ومتوسلین کو نوازتے رہے۔ سنہ ۱۹۶۶ء میں بمقام بنارس میں ہزاروں سوگواروں کو روتا چھوڑ کر مالک حقیقی سے جاملے۔ حضرت کا جسد خاکی بسکھاری لایا گیا۔ آپ حضور مخدوم سمنانی کے روضۂ پرانوار کے سامنے آرام فرما ہیں۔

حضرت مولانا کی شخصیت بڑی جامع تھی، ان کے افکار وخیالات نہایت بلند تھے۔ ان کے کاموں کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ طبعاً نہایت خاموش، گوشہ نشین، قانع اور شہرت ونمود سے بے نیاز تھے۔ تصنیفی قابلیت میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ آپنے کئی کتابیں تصنیف کیں اور کئی تراجم بھی کئے جن میں ترجمہ لطائف اشرفی (۵ لطائف) ترجمہ مکتوبات اشرف، (۵ مکتوب) رہنمائے زائرین، ترجمہ مکتوبات امام غزالی، عملیات اشرفی اور اوراد اشرفی وغیرہ شامل ہیں۔ علم حکمت سے متعلق آپکے بہت سے مضامین مشہور طبی رسالہ "الحکیم لاہور" میں شائع ہوئے ہیں۔ آپکی نعتیہ شاعری عشق رسول کا کامل نمونہ ہے۔ اسمیں سوز وگداز، عشق اور تڑپ ہے۔ حضرت مولانا کو جس نے قریب سے دیکھا ہے شاغل خلوت وجلوت سے واقف ہے وہ آج بھی کہتا ہے کہ آپ خلق محمدی کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ بقول ڈاکٹر آفاق فاخری

"سید عبدالحی اشرف ایسی پاک طینت اور بزرگ ہستی تھی جس نے اپنے اخلاق حسنہ اعمال صالح اور دلکشی اور جاذب شخصیت سے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا" کسی نے کہا ہے کہ جس کی تعریف باہر والے کریں وہ عظیم ہے اور جسکی تعریف گھر والے کریں وہ عظیم تر ہے۔ حضرت مولانا امام الدین قادری خطیب جامع مسجد بسکھاری فرماتے ہیں۔

"حضرت کی ذات گرامی ایسے صوفی باصفا کی تھی جو متصف بصفات کریمہ تھی۔ آپ قناعت وتوکل صبر واستغنا کے پیکر تھے۔ وہ ایک قلب درد آشنا رکھتے تھے۔ عشق رسول ان کا مقصد زندگی تھا۔ حضرت مولانا کا عہد مبارک ختم ہو چکا ہے، انوار سلوک وعرفان کا سلسلہ آپکے صاحبزادے سید شاہ فخرالدین اشرف سجادہ نشین درگاہ کچھوچھہ شریف کی ذات بابرکات سے قائم ہے۔ اللہ ان کے فیوض وبرکات کو عام کرے اور حضرت مولانا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ

ازسید شاہ مظہرالدین اشرف ایم اے علیگ ۳۰ر جنوری ۱۹۹۰ء

مراجعت:۔ مراۃ الاسرار۔ از عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بحر ذخار۔ شاہ وجیہہ الدین امیٹھوی۔ حضرت مولانا عبدالحی اشرف کی نعتیہ شاعری۔ از ڈاکٹر محمد آفاق فاخری مطبوعہ قومی آواز ضمیمہ، تجلی اشرفیہ مبارکپور، گلدستہ نعت از مولانا عبدالحی اشرف جس پر تقریظ مولانا امام الدین قادری نے لکھی ہے۔

ہدایات برائے عامل

عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل عامل کیلئے مندرجہ ذیل صلاحیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ابجد سے واقفیت ضروری ہے تاکہ اسم، آیت اور عبارات مطلوبہ سے اعداد نکال سکیں۔

۲۔ نجوم و کواکب کا علم بھی ضروری ہے تاکہ بوقت ضرورت ساعات کو مدنظر رکھا جاسکے۔

۳۔ جنتری دیکھنے کی صلاحیت ہو اور سعد و نحس ساعات سے واقفیت ہو

شرائط جو اعمال کیلئے ضروری ہیں

۱۔ صفائی ظاہر و باطن (۲) طہارت کاملہ (۳) صدق نیت (۴) صدقہ خیرات (۵) نفور صحبت اشرار و گریز اختلاط اغنیار و امراء (۶) کثرت استعمال اشیاء خوشبودار و عطریات (۷) ترک استعمال بوئے بد مثل حقہ، پیاز، لہسن وغیرہ (۸) بخور خوشبودار بوقت عمل مثل لوبان عود، عنبر، مشک (۹) خلوت و تنہائی (۱۰) خلوص قلب (۱۱) خشوع و خضوع (۱۲) مطلب مطلوب (۱۳) توجہ تام (۱۴) اکل حلال (۱۵) صدق مقال (۱۶) احتراز و احتیاط امور غیر مشروع سے (۱۷) قلت طعام قلت کلام اور قلت منام کی عادت (۱۸) قرات و درود شریف اول و آخر دعا، کے بحساب عشر مقدار اعداد دعا بر غایت عدد طاق کے

(۱۹) آیات و دعا کے معنی پر عبور، خانہ پُری اوفاق حسب اصول اور سب خانے برابر یکساں رہیں (۲۰) کثرت قرأت استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ بلاقید وقت و تعداد کے (۲۱) اگر اول و آخر میں تین روزہ نہ رکھ سکے تو ایک ہی روز اول و آخر رکھے (۲۲) دعا کے اوقات کا زیادہ تر خیال رہے۔ خاص کر آخر شب اور سحر کو ہاتھوں سے نہ جانے دے (۲۳) جن اعمال میں شرائط سیارگان اور ساعت کی قید نہیں ہے انہیں ضرور ہے کہ ابتداء عمل کی عروج ماہ شب پنجشنبہ یا روز پنجشنبہ خواہ شب جمعہ یا روز جمعہ سے کرے۔ (۲۴) تمامی اوقات میں ضروری ہے کہ سب سے اول اربع عناصر کا عمل کرلیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعویذ کو موافق تعداد اعداد اس کے بموجب شرائط کے لکھکر اس کے چار حصے کرے اول حصہ کو آگ میں جلادے دوسرے حصہ کو ندی یا نہر کے کنارے دفن کرے تیسرے حصہ کو آب رواں میں چھوڑ دے چوتھے حصہ کو اشجار ثمردار شیریں آویزاں کردے۔ پھر اس کے بعد دو تعویذ اور لکھے ایک اپنے پاس اور دوسرا تکیہ میں رکھے۔ یہ عمل بروز پنجشنبہ عروج ماہ میں ہونا چاہیے۔

لوازمات نقوش

نقوش کے لوازمات میں قلم سیاہی اور بخورات اس کے ساتھ کتابت کی شرائط اور آداب کا جاننا نہایت ضروری ہے۔

۱۔ قلم:۔ قلم کو حلال ہدیہ سے خریدنا چاہیے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر

عمل کے لئے نیا قلم چھیلا جائے۔ یا نیا قلم لیا جائے جس سے پہلے کچھ نہ لکھا گیا ہو۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سعد اعمال کیلئے الگ قلم رکھتے ہیں اور نحس اعمال کیلئے الگ۔

قلم کو تراشنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں بعد ازاں پانچ مرتبہ اقراء وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پڑھیں اور قلم کو تراشیں۔ اگر قلم اعمال خیر اور حب کیلئے ہے تو قلم کا رخ اپنی طرف کر کے تراشیں اور اگر اعمال غضب کیلئے ہے تو اپنی طرف سے اس کا رخ دوسری طرف کر کے چھیلیں اور قلم زمین پر نہ رکھیں جبتک کہ نقش تمام نہ ہو جائے۔ جس وقت قلم بنائیں تو زبان سے کہیں یا مستعان اقض حاجتی اور جب قلم بن جائے تو اولاً ابہام کی انگلی کے ناخن یا کف دست پر ذیل کا کلمہ لکھیں۔

اگر قمر برج آتشی میں ہو تو لکھے	اھطمفشذ
اگر قمر برج بادی میں ہو تو لکھے	یومن کیتض
اگر قمر برج آبی میں ہو تو لکھے	خرمس فشظ
اگر قمر برج خاکی میں ہو تو لکھے	وحل برجیغ

حقیقت یہ ہے کہ اس قلم سے جو کچھ لکھا جائے گا اس کا نتیجہ لازماً ظاہر ہوگا اور جوبات ہوگی وہ تیزی سے قبول ہوگی

۲۔ **سیاھی** - سیاہی کے لئے یاد رکھئے کہ دو قسم کی سیاہی تعویذات

کے لکھنے میں کام آتی ہے۔ ایک سرخ دوسری سیاہ۔ سرخ رنگ زعفران سے حاصل کرتے ہیں اعمال خیر کیلئے مفید ہے۔ اعمال غضب کیلئے کالی روشنائی کا استعمال مناسب ہے۔

۳۔ **کاغذ** ۔ کاغذ رنگ کے لحاظ سے انتخاب کیا جاتا ہے اور یہ رنگ کواکب کے متعلق رنگوں سے لئے جاتے ہیں۔ اعمال خیر کے لئے سفید کاغذ اور اعمال شر کیلئے سنہرا کاغذ اور اعمال غضب کیلئے سرخ نیلا اور ملے جلے رنگوں والا کاغذ خواہ یہ کاغذ کے ایک ہی طرف ہو۔ ابرقی کاغذ سفید ہوتا ہے۔

۴۔ **کپڑا**۔ نقوش جس کپڑے میں لپیٹا جائے وہ کواکب کے موافق رنگ کا ہوتا ہے اور اگر طالب و مطلوب یا بصورت عداوت طرفین کے پہنے ہوئے کپڑے میں لپیٹا جائے تو مناسب ہے۔

۵۔ **بخور**:۔ بخور اس ستارے کا جلائیں جو عمل کے موافق ہو جس ساعت میں کام کر رہے ہیں۔ بخور سے روحانیاں متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ماحول اس لوح یا نقش سے سازگار ہو جاتا ہے۔

بخور یہ ھیں:۔

زحل کا	سیر	-	زہرہ کا	زعفران
مشتری کا	حب الفار	-	عطارد کا	مصطگی
شمس کا	عود	-	قمر کا	لوبان

نقش کے اقسام اور اسکی اہمیت

نقش تعویذات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ شیخ نظام یمنی مصنف لطائف اشرفی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر دعوت تکبیر تعویذات میں صرف کی اور سب کا تجربہ کرنے کے بعد جو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی سے سیکھا۔ ایک رسالہ میں تحریر کیا جس کا نام کنز الاسرار ہے۔ بعض مشائخ نے ان علوم کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ محی الدین ابن عربی اور امام غزالی وغیرہ کو ان میں بہت دخل تھا امام غزالی فرماتے ہیں کہ حق سبحانہٗ نے حروف کے اثرات مجھ پر منکشف کئے جس سے مجھ کو قسم قسم کے علوم حاصل ہو گئے۔

حضرت قدوۃ الکبریٰ سید اشرف جہانگیر اپنے اصحاب کو ان اعمال کی بہت کم اجازت دیتے تھے اور کہتے تھے۔ ارباب دل کو اس سے بہتر کام در پیش ہیں جس طالب نے دریائے توحید میں غوطہ لگایا۔ اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت۔ البتہ ان اعمال کی حاجت اس شخص کو ہے جو مقتدا بننا اور جمعیت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اگلے وقتوں کے بزرگ اسمائے الٰہی کی زکوٰۃ دوسری مصلحتوں سے دیتے تھے لیکن اس زمانہ کے لوگوں نے ان اسماء کو جمعیت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور یہ بہت برا کام ہے۔ بہر حال درویش ان اسرار سے خالی نہیں اور جوہری کی دکان پر ہر قسم کے جواہر موجود ہوتے ہیں۔

علم اللواح: ور اثرات اعداد میں خزانے پوشیدہ ہیں۔ اعداد و حروف کا علم بہت قدیم ہے ان میں اتنی خاصیتیں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتیں صرف خاصان خدا ہی ان قوتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں چشم بینا کا تو ذکر ہی کیا وہ پس پردہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے البتہ اس میدان میں قدم رکھنے والے اور محنت کرنے والے حضرات جب تحریر کریں گے تو وہ اپنی آنکھوں سے اس کے فوائد مرتب ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ واللہ الموفق

حضرت انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اس میں صبر و شکر کا مادہ بہت کم ہے۔ اسلئے اسلام نے اپنے بندوں سے استعانت طلبی کے دو راستے صبر و صلوٰۃ بتائے ہیں۔ صبر کو صلوٰۃ پر مقدم رکھا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں سے مزید وعدہ فرمالیا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں لیکن انسان بے چین رہتا ہے۔ ایسے میں اس کو اعمال تعویذات دی جاتی ہیں تاکہ اس کو سکون حاصل ہو اور یہ ایک احسن کام ہے اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اور ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا۔

نقش لکھنے والا نماز پنجگانہ کا پابند ہو، شریعت و طریقت کے اصول کی پیروی کرتا ہو، عقیدہ درست ہو، جس سے نقش کی تاثیر دوگنا ہو جاتی ہے۔

نقش کے اقسام :: نقش دو قسم کے ہوتے ہیں ۱۔ طبعی ۲۔ وضعی

۱۔ طبعی نقش وہ ہوتا ہے جس میں اعداد طبعی ہوں۔ ایک سے شروع ہو کر کل خانوں کی تعداد کا عدد آخر ہو۔ مثلاً مثلث طبعی وہ ہوگی جس میں ایک سے نو ہندسے ہوں اور میزان ہر طرف سے اسکی پندرہ ہوں۔

۲۔ وضعی نقش وہ ہوتا ہے جو کسی اسم یا آیت یا عزیمت کے اعداد کی جمع لیکر مقصد کے مطابق نقش بھرا جائے۔ اس میں تعداد طبعی سے زیادہ ہوں گی۔

نقش طبعی

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

نقش وضعی

۱۶	۱۱	۱۸
۱۷	۱۵	۱۳
۱۲	۱۹	۱۴

تعویذات کے اقسام :۔ تعویذات چار قسم کی ہوتی ہیں

۱۔ آتشی ۲۔ بادی ۳۔ خاکی ۴۔ آبی

۱۔ آتشی :۔ مثلث کی سمت شرقی ہے، مزاج آتشی ہے یہ تعویذ برائے ہلاکت، بیمار کرنا، خرابی و تباہی اور تفرقہ میں کام دیتی ہے اسلئے جب بھی ایسا مقصد ہو آتشی سے نقش پُر کیا جاتا ہے اور منہ مشرق کی طرف رکھا جاتا ہے مثلاً یہ تعویذ۔

آتشی

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

۲۔ بادی۔ مثلث کی سمت مغرب سے تعلق رکھتی ہے۔ مزاج اس کا بادی ہے۔ برائے فتوحات حاجات، ترقی درجات وغیرہ کے لئے یہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لکھتے وقت منہ مغرب کی سمت کیا جاتا ہے۔

بادی

۶	۷	۲
۱	۵	۹
۸	۳	۴

۳۔ خاکی۔ خاکی کی سمت جنوب سے متعلق ہے۔ مزاج اس کا خاکی ہے۔ برائے خروج زبان بندی خواب بندی، دل بندی، گوش بندی سخن بندی، سحر و جادو کو دور کرتا کسی امر کی قائمی حصول کیلئے اسے پر کرتے ہیں اور منہ جنوب کی طرف رکھتے ہیں۔

خاکی

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

۴۔ آبی۔ آبی مثلث شمال سے متعلق ہے۔ مزاج اس کا آبی ہے۔ برائے محبت، شفائے امراض، دردزہ، قضائے حاجات کے لئے اس کو پُر کرتے ہیں۔ لکھتے وقت منہ شمال کی طرف ہونا چاہیے۔

آبی

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

احتیاط:۔ یہ لازم ہے کہ ایسا دن انتخاب کیا جائے کہ رجال الغیب سے نہ پڑیں حکماء نے اسے ایک مثلث کی شکل دیکر بہ لحاظ عناصر خانوں کو بیان کیا ہے۔

		تفریق		
		آتشی		
فتوحات	بادی		آبی	محبت
		خاکی		
		عقود		

نقوش کا طریقہ استعمال

۱۔ اگر نقش خاکی ہے۔ کوئی شخص اس کا استعمال کرنا چاہے تو پہلے اسکی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی نیک مقصد کیلئے ہو نقش کے اعداد پاک زمین پر یا پاک ریت پر انگلی سے لکھیں اور مٹائیں۔ ہر روز ایسا ہی کریں۔ یا غضب ہو تو لکھ کر جاری پانی میں ڈالیں۔ نقش خاکی کو پانی میں ڈالنے پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

۲۔ اگر نقش آبی ہے اور کوئی شخص چاہے کہ اسکی زکوٰۃ کرے یا کسی نیک کام کیلئے عمل کرے تو نقش لکھ کر آب رواں میں ڈالے۔ اگر حب کیلئے ہو تو پلانا چاہئے یا اس نقش کو پانی کے برتن کے نیچے رکھے۔

۳۔ اگر نقش بادی ہو اور عمل عداوت کیلئے ہو خاردار درخت یا کڑوے پھل کے درخت مثل نیم کے اوپر لٹکاتے ہیں۔ اگر حب کے لئے ہو تو میوہ یا کسی میٹھے پھل کے درخت پر لٹکاتے ہیں تاکہ

ہوا سے ہلتا رہے۔ اگر عمل سرگردانی دشمن کیلئے ہے تو نقوش کو صحرا میں کسی بلند جگہ پر جاکر اڑاتے ہیں۔

۴۔ اگر نقش آتشی ہو اور اگر کوئی حاجت درکار ہو تو اسے آگ میں ڈالتے ہیں۔

نقش بھرنے کے اصول

(۱) نقش بھرنے سے پہلے نہا کر کپڑے بدل لیں۔ درمیان نماز اشراق اور چاشت آسمان کے سائے میں ننگے سر بھریں۔ کسی انسان کا سایہ پڑے نہ کسی سے بات چیت کریں۔ اگربتی اور لوبان سلگائیں۔ زمین پاک ہو قبلہ رخ دو زانو بیٹھ کر بھریں۔ اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھکر نقش پر دم کر دیں۔ اس کو باندھ لیں۔ نقش کو مشک و زعفران اور گلاب کی روشنائی سے بھریں۔ نقش صرف نوچندی جمعرات یا اس کی صبح کو جمعہ کے دن لکھ سکتے ہیں۔ کسی دوسرے دن نہیں لکھ سکتے ہیں تعویذ مکمل کرکے ۸ ماشہ چاندی کی خول بنواکر اسمیں بھر دیں اور اپنے داہنے بازو پر باندھیں اس میں کثرت سے عطر لگایا کریں۔

پرہیز:۔ تعویذ باندھے ہوئے عورت کی سوری (زچہ خانہ) میں نہ جائیں اور نہ مردہ کو چھوئیں اور نہ عورت کے ساتھ خلوت۔ ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔

(۲) مثلث میں ۱۲ سے طرح دیگر مثلث سے بھرنا چاہئے۔ اگر ایک کہ ہو

توخانہ ۷ دو ہو تو خانہ ۴ میں اضافہ کیا جائے۔

مربع میں تیس سے طرح دیگر ربع سے بھرنا چاہئے۔ اگر ایک کسر ہو توخانہ ۱۳ میں۔ دو ہو تو خانہ ۹ میں اور تین ہو تو خانہ ۵ میں ایک ایک عدد اضافہ کریں۔

مخمس میں ساٹھ سے طرح دیگر خمس سے بھرنا چاہئے۔ ایک کسر ہو توخانہ ۲۱۔ دو ہو تو خانہ ۱۶ میں تین ہو تو ۱۱ چار ہو تو چھٹے خانہ میں اضافہ کرکے نقش پورا کرے اور اشعار ان سبھوں کی اسطرح ہے۔

دو اسپ پیادہ و دو فرزین
از گاہ پیادہ و دو اسپ است

۱۳	۷	۱	۲۵	۱۹
۲۱	۲۰	۱۴	۸	۲
۹	۳	۲۲	۱۶	۱۵
۱۷	۱۱	۱۰	۴	۲۳
۵	۲۴	۱۸	۱۲	۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

حروف تہجی کے اعداد

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالٰے کے نام یا کسی دعا کے نقش پر کرتے وقت اس کے اعداد بحساب ابجد نکالے جائیں۔ حروف تہجی کے مقررہ وزن و اعداد مندرجہ ذیل ہیں۔

ا	ب ۲	ج ۳	د ۴
ہ ۵	و ۶	ز ۷	ح ۸
ط ۹	ی	ک ۲۰	ل ۳۰
م ۴	ن ۵	س ۶۰	ع ۷۰
ف ۸	ص ۹	ق ۱۰۰	ر ۲۰۰
ش ۳۰۰	ت ۴۰۰	ث ۵۰۰	خ ۶۰۰
ذ ۷۰۰	ض ۸۰۰	ظ ۹۰۰	غ ۱۰۰۰

مثلاً کسی شخص کو اسم لطیف پڑھنا ہے یا اس کا نقش پر کرنا ہے تو بحساب ابجد اعداد اس طرح حاصل کئے جائیں۔

ل	ط	ی	ف	
۳۰	۹	۱۰	۹۰	} ۱۲۹

۷۸۶
۹۲

طریق التزام رجال الغیب

حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ فرماتے ہیں طائفۂ صوفیہ روزمرہ رجال الغیب سے التزام توجہ کرتا ہے کیونکہ یہ ان کی مہمات سے ہے۔ وہ ان کو اپنا پشت پناہ تصور کرتے ہیں اور اپنی مہمات میں ان کی استمداد کے خواہاں رہتے ہیں۔ ہر صبح بعد اوراد و وظائف دائرہ رجال الغیب دیکھنا چاہئے۔ وہ جس سمت ہو اس طرف دل کو متوجہ کر کے یہ کہنا چاہئے۔ باردات المقدسہ یا رجال الغیب۔ اغیثونی بقوۃ والنظرونی بنظرۃ بعد ازاں اپنی پشت کو انکی جانب کرے اور صدق دل سے ان کو اپنا پشت پناہ تصور کرے۔ ہر روز یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مقصد پورا ہوگا سفر و حضر میں رجال الغیب کا سامنا مکروہ ہے اور باعث زیاں در ان کا پشت پر ہونا مبارک ہے مثلاً قمری مہینے کی ۱۳،۱۹،۲۰، ۴ کو رجال الغیب مغرب میں رہتے ہیں انکی تاریخ میں مغرب کیطرف کا سفر سے اجتناب کرے اور مشرق کی جانب جانا مبارک ہے کیونکہ رجال الغیب پشت پر ہوں گے۔



حل المشکلات

اس باب میں اعمال و تعویذات کے ایسے جامع طریقے دیئے گئے ہیں جن کو حسب ضرورت ڈھالا جا سکتا ہے۔ وہ ہر مشکل میں کام آ سکتی ہیں۔

اسمائے حسنیٰ سے طلب حاجات

حاجتمند کیلئے ایک سہل اور مجرب نسخہ ہر حاجت کیلئے یہ ہے کہ اپنی حاجت کے مطابق اسم الٰہی کا انتخاب کرے۔ یہ دس اسماء ہر حاجت کیلئے کفایت کرتے ہیں۔ ورد کرتے وقت لفظ "یا" کا اضافہ کریں۔

نمبر	اسماء	تعداد	حاجت	دن مخصوص
۱	کَافِیْ	۱۱۱	کفایت مہمات دنیوی اور تحفظ کیلئے	بدھ
۲	غَنِیُّ	۱۰۶۰	برائے دولت	جمعرات
۳	فَتَّاحُ	۴۸۹	فتوحات کے لئے	ہفتہ
۴	رَزَّاقُ	۳۰۸	رزق و ملازمت کیلئے	جمعہ
۵	وَدُوْدُ	۲۰	محبت و تسخیر کیلئے	جمعہ
۶	لَطِیْفُ	۱۲۹	اقربا امراء کی مہربانی کیلئے	جمعرات
۷	وَاسِعُ	۱۳۷	ترقی مرتبہ و ترقی رزق کیلئے	بدھ

۸	شَہِیْدُ	۳۱۹	ہیبت اور وقار کیلئے	منگل
۹	شَافِیْ	۳۹۱	شفائے امراض کے لئے	بدھ
۱۰	نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْر	۸۲۴	حاجات میں مدد اور رہنمائی کیلئے	اتوار

عمل حل المشکلات

یَا فَتَّاحُ الَّذِیْ فَتَحَ عَلَی الْاَبْوَابِ۔ ایکسو گیارہ بار اول آخر درود شریف ۱۱۔ ۱۱۔ بار پڑھے ۳ یا ۷ دن میں ورنہ زیادہ سے زیادہ ۲۱ روز میں مقصد پورا ہو۔ اس کے لئے وقت بعد نماز عشاء بہتر ہے۔

نقش برائے حصول مدعا۔

۱۶۹	۱۸۳	۱۷۹	۱۷۶
۱۸۰	۱۷۵	۱۷۰	۱۸۲
۱۷۴	۱۷۷	۱۸۵	۱۷۱
۱۸۴	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۸

اس تعویذ کو مشک و زعفران سے یا روشنائی سے لکھ کر گلے میں ڈالا جائے یا دیوار پر لٹکایا جائے۔

مشکل کاموں کے انجام کیلئے

جب کوئی مشکل درپیش آئے تو اس دعا کو تین روز موافق شرائط کے ۶۹ بار ہر روز پڑھے۔ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمُحَمَّدٍ وَّرِفْعَتِہٖ وَبِصِدْقِ اَبِیْ بَکْرٍ وَّخِلَافَتِہٖ وَبِعَدْلِ عُمَرَ وَصَلَابَتِہٖ وَبِحَیَاءِ عُثْمَانَ وَسَخَاوَتِہٖ وَبِعِلْمِ عَلِیٍّ وَّشُجَاعَتِہٖ وَبِشَرَفِ فَاطِمَۃَ وَزِیْنَتِھَا

وَبِسَخَاوَۃِ الْحَسَنِ وَرُتْبَتِہٖ وَبِشَہَادَۃِ الْحُسَیْنِ وَغُرْبَتِہٖ اَنْ تَقْضِیْ حَاجَتِیْ یَا قَاضِیَ الْحَاجَاتِ

حل المشکلات اور ہر طرح کے بخار کیلئے تعویذ

واسطے مشکلات آسان ہونے حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ کو چار سو پچاس دفعہ مذکورہ دعا کو سات دفعہ پڑھے وہ مشکل انشاء اللہ آسان ہو جائے گی۔ منجملہ ان چیزوں کے جو بخارات کے دور کرنے کو مفید ہیں۔ اس جدول پر آیۃ شریفہ ہے۔



نقش برائے حل المشکلات

۶۸۱	۶۷۴	۶۷۹
۶۷۶	۶۷۸	۶۸۰
۶۷۷	۶۸۲	۶۷۵

برائے حل المشکلات

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَا قُدُّوْسُ الطَّاھِرُ مِنْ کُلِّ سُوْءٍ وَّلَا شَیْءَ یُعَادِلُہٗ مِنْ خَلْقِہٖ بِلُطْفِہٖ یَا قُدُّوْسُ۔ ہر مرض کے لئے مجرب ہے۔

برائے حل المشکلات

۷۸۶

۳	۸	۴
۷	۶	۲
۵	۱	۹

حل مشکلات اور رزق میں کشادگی:-

۷۸۶



دائمی عزت کا حصول اور حل مشکلات

شر اور سختیوں سے بچنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ تجدید وضو کرکے دو رکعت نماز نفل ادا کرے پھر پورے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ چار سو مرتبہ پڑھے پھر اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ۔ چار سو پچاس دفعہ اور اسی قدر درود شریف پھر اسی قدر یَا عَزِیْزُ۔ یَا کَافِیْ۔ یَا قَوِیُّ۔ یَا لَطِیْفُ پڑھے اور ہر صدی کے بعد تین مرتبہ یہ کہتا رہے۔ یَا عَزِیْزُ اَعِزَّنِیْ۔ یَا کَافِیْ اَکْفِنِیْ۔ یَا قَوِیُّ قَوِّنِیْ۔ یَا لَطِیْفُ اُلْطُفْ لِیْ فِیْ اُمُوْرِیْ کُلِّهَا وَالْطُفْ لِیْ فِیْ اُمُوْرِیْ۔ اور اپنی حاجات کو یاد کرکے دعا مانگے۔

حل مشکلات کیلئے

جب کوئی مشکل پیش آوے تو چاہیے کہ بعد وضو کامل خلوت دو رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا بتعداد حروف ۲۱۹ بار پڑھے۔ اور سجدہ میں اپنی حاجت طلب کرے۔

اَللّٰهُمَّ يَا وَدُوْدُ۔ يَا وَدُوْدُ۔ يَا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ مَلَاَ اَرْكَانَ عَرْشِكَ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِيْ قَدَرْتَ بِهَا عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا غِيَاثُ اَغِثْنِيْ يَا غِيَاثُ اَغِثْنِيْ يَا غِيَاثُ اَغِثْنِيْ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِيْ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِيْ يَا مُغِيْثُ اَغِثْنِيْ۔ تین روز تک متواتر یہ عمل کرے۔

نقش برائے حل المشکلات ←

۱۶۹	۱۸۳	۱۷۹	۱۷۶
۱۸۰	۱۷۵	۱۷۰	۱۸۲
۱۷۴	۱۷۷	۱۸۵	۱۷۱
۱۸۴	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۸

حل المشکلات جب کوئی مشکل درپیش ہو تو بعد نماز عشاء ذیل کی دعا گیارہ سو مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف :- وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ۔ ۲ یَا لَطِیْفُ ۴۰ یوم تک پڑھیں۔ ۳ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ پانچسو ایک بار بعد نماز عشاء۔ اول و آخر ایک ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھ کر سجدہ میں سر رکھ کر اللہ سے مشکل آسان ہونے کی دعا کریں۔

نقش برائے اعمال حُب و تسخیر

برائے حُب :- یہ نقش لکھ کر زمین میں دفن کر دیں اور اوپر سے سوئی چبھو دیں۔



۱۲۵ ۶ ۲۰ ۲ عہ ع

۴۰ یوم مطلوب کو پلائیں مرغی کے انڈے میں رکھ کر چولہے میں دفن کریں۔

بلے/۱۱/۱۱/۸۶۸ ۷۱۹۹۶ طـ ۵ فلاں بن فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں

طالب اپنے داہنے بازو پر باندھے۔

نقش برائے حُب طالب اپنے بازو پر باندھے۔


ط ۱۱۵۰۱۵۸۵ ع

العجل العجل العجل فلاں بن فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں مذکورہ نقش کو طالب اپنے داہنے بازو پر باندھے۔

نقش برائے حب

کسی پھلدار درخت میں لٹکائیں


۷۸۶
حضرت جبرئیل علیہ السلام
حضرت میکائیل علیہ السلام
حضرت ابوبکر صدیقؓ
حضرت عمر فاروقؓ
لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ
المحب فلاں بن فلاں
علیٰ حب فلاں بنت فلانۃ
حضرت علیؓ
حضرت عثمانؓ
حضرت عزرائیل علیہ السلام
حضرت اسرافیل علیہ السلام

نوٹ :- عامل حضرات حب کے تعویذات جائز صورت میں لکھیں۔ ورنہ اس کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔

دیگر برائے حب

جب یہ دعا چینی کی طشتری میں لکھ کر زعفران مشک گلاب سے لکھ کر مطلوب کو پلائیں۔ دعا یہ ہے —— یَا صَمَدُ بِغَیْرِ سَبَبِہٖ فَلَا شَیْئًا کَمِثْلِہٖ یَا صَمَدُ بِغَیْرِ سَبَبِہٖ فَلَا شَیْئًا کَمِثْلِہٖ الْحُبُّ فُلَانْ بِنْ فُلَانْ عَلیٰ حُبِّ فُلَانْ بِنْ فُلَانْ ۝

برائے حب و محبت

فرمودہ جناب حضرت مولوی عبدالقدیر صاحب جلال پوری۔

چاہیے کہ بروز جمعہ بعد نماز فجر اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف درمیان میں سورہ اذا جاء مع ہر بار بسم اللہ کے ایک سو ایک بار عمدہ عطر حنا پر شروع ماہ کے اول جمعہ کو پڑھ کر دم کرکے لگا کر مطلوب کے پاس جائیں فریفتہ ہو جائے گا۔

دیگر :— ماہ زوال کے اول اتوار کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک سو ایک بار سورۃ اذا جاء پڑھ کر عمدہ شیرینی پر دم کرکے کسی طریقے سے مطلوب کو کھلائیں مطیع و فرمانبردار ہوگا۔ اور بیچ میں فَسُبْحَانَ الَّذِیْ بِیَدِہٖ مَلَکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ وَّاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ ۝ اسکو بعد نماز پڑھنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ اللہ پاک اپنے کلام پاک کی برکت سے فلاں بن فلاں یا بنت فلاں کو مطیع کردے۔ آمین ثم آمین بجاہ المرسلین۔

(عطیہ حضرت قطب وقت مولانا عبدالقدیر جلال پوری)

دیگر :— حسب اوقات ہر ماہ کی گیارہویں تاریخ کو مٹھائی منگا کر حضرت بڑے پیر صاحب کو فاتحہ دیں اور ان سے التجا کریں کہ فلاں بن فلاں کے قلب میں میری الفت پیدا ہو جائے۔ اور میرے حال پر کرم فرمائیں توجہ ہو جائے کہ میرا فلاں مقصد بر آ ہو جائے اور اس وقت تک ہر ماہ کی گیارہویں کو نذر دیتے رہیں کہ جب تک مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔

* * *

واسطے محبت کے یہ نقش لکھ کر موم جامہ کرکے بازو پر باندھیں نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۶۹۰	۶۹۵	۶۹۳
۶۹۷	۶۹۲	۶۹
۶۹۲	۶۹۱	۶۹۶

برائے حب اکسیر ہے۔ اس نقش کو مرغی کے انڈے پر لکھ مطلوب کے مکان میں دفن کردیں۔ انشاء اللہ کامل اثر ہوگا نقش یہ ہے

۷۸۶

۹۷۱۷	۹۰۰۱۸	۹۶۸	یا اللہ
۹۶۸۷	۹۰۰۱۶	۹۶۸	یا اللہ
۹۶۸۷	۹۰۰۱۶	۹۶۸	یا اللہ
۷۱۷۹	۹۰۰۱۶	۹۶۸	یا اللہ

الحب فلان بنت فلان علیٰ حب فلان بن فلان

حب کے لئے آیۃ الکرسی سو زکوٰۃ یہ کہ عشاء کے فرض و سنت پڑھ کر قبل وتر دونوں زانوں بیٹھ کر ۴۱ بار آیۃ الکرسی بہ نیت حب پڑھیں اوّل وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اس طرح چالیس روز کریں اور صبح کی سنت پڑھ کر گیارہ بار آیۃ الکرسی اوّل وآخر درود شریف، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس درمیان خدا چاہے تو آتش محبت مطلوب کے دل میں بھڑک اُٹھے گی۔ اگر اس درمیان اثر نہ معلوم ہو تو فجر کے سنت و فرض کے درمیان گیارہ بار مع درود شریف کے پڑھا کریں ان شاء اللہ ۲۱ روز میں مطلوب حاضر ہوگا۔ مگر تصور کے ساتھ پڑھ کے مطلوب کی جانب پھونک دیا کریں۔ مجرب ہے۔

اس نقش کو گھول کر پلائیں محبت ہوگی کوئی دن تاریخ مقرر نہیں ہے۔

۱ × ۲ کفا کفا صبرا ۱۷۳۱ الا الالا ۱

برائے حب

کئی بار کا تجربہ کیا ہوا۔ عروج ماہ میں اتوار کے روز طلوع آفتاب کے وقت لکھا جائے

عزمت یا مَعشَرَ الاَروَاح وصَاحِبِ الشَّرِّ الوَسوَاسِ الخَنَّاسِ جنود ابلیس خاتم سُلیمان بن داؤد عَلَیہِ السَّلَامِ وَبحق ہاروت وَماروت اِن ھُوَ اِلَّا ذِکرٌ لِّلعٰلَمِینَ فلاں بن فلاں نام مطلوب مع والدہ علی بن فلاں نام طالب مع والدہ

برائے حب

اوّل وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف درمیاں ۹۱ مرتبہ وَتَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاھِھِمْ وَتُکَلِّمُنَا ایک ہفتہ تک مشک پر دم کرے دوسرے ہفتہ میں ایک چاول پان میں رکھ کر کھلائے اور مطلوب سے بات کرے۔

دیگر برائے حب

ایک عامل کو دیکھا کہ اس نقش کو لکھ کر پرندے کا نام لکھ کر درخت پر باندھ دیتے تھے۔ تو پرندے وہاں جمع ہوتے تھے ڈرانے سے بھی نہیں بھاگتے تھے اثر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ جب نقش کا زکوٰۃ ادا کیا جائے تاہم بغیر زکوٰۃ کے بھی کام دیتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ جس دن چاند دیکھے اسی رات سے یعنی پہلی رات سے زعفران سے ۵۲ نقش پُر کریں اور بخور سلگائیں باطہارت قبلہ رخ ہو کر لکھیں پھر دوسری شب ایک زیادہ لکھیں یعنی ۵۳ تیسری شب ۵۴، چوتھی شب کو ۵۵، پانچویں شب ۵۶، چھٹویں شب کو ۵۷، آٹھویں شب ۵۹ اور نویں شب کو ۶۰ نقش لکھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس درمیان میں مطلوب حاضر ہو جائے گا۔

خدانخواستہ اگر خاص اثر نہ ہوا تو جس ترتیب سے آپ نے نقش لکھا ہے اسی ترتیب سے تمام نقش کی بتی بنا کر روغن چنبیلی میں تر کر کے جلا دیں بتی کا رخ مطلوب کی طرف ہو جب تک بتی جلتی رہے آپ اسے دیکھتے رہیں اور تصور مطلوب کا ہو کر مطلوب کا دل مرے عشق میں جل رہا ہے۔ یہ خوب یاد رہے کہ نویں شب میں ۶۰ نقش لکھا ہ

مطلب نہیں حاصل ہوا تو دوسری شب ۵۲ نقشوں کا فلیتہ بنا کر روشن کریں دوسرے میں ۵۲ نقش کا تیسرے شب میں ۵۴ نقش کا اسی ترتیب سے جلائیں۔ جلاتے وقت یا نقش لکھتے وقت وہاں کوئی دوسرا آدمی نہ ہو۔ نقش لکھنے کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے ۱۲ بجے تک ہے نقش مبارک یہ ہے۔

[illegible]	الائل	۲۱	دبوش	۱۶	بکائل	۲۳
نام مطلوب [illegible]	بکائل	۲۲	کوش	۲۰	حیائل	۱۸
[illegible]	زیائیل	زیائیل	دکوش	۲۴	طائل	۱۹

دیگر برائے حب

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِکْ وَسَلِّمْ یَاغَفُوْرُ یَاغَفُوْرُ اَلِفْ مِیْم عَیْن ن ح ح حِلْم ج مِیْم اَلِفْ عَیْن بحرمت خواجہ میر سَیِّدْ اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ بحق کٓھٰیٰعٓصٓ ۚ حٰمٓ عٓسٓقٓ بحق یُحِبُّوْنَھُمْ کَحُبِّ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ آمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰہِ فَسَیَکْفِیْکَھُمُ اللّٰہُ یا مقلب القلوب والابصار بلطفِ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ

یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ

یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ

یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ

یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَاوَدُوْدُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ

یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ

یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ

یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ یَابَدُّوْحُ

یَابَدُّوْحُ ۷۸۶ یَاقَیُّوْمُ

بسم	اللہ	الرحمن	الرّحیم
الرحیم	الرحمٰن	اللہ	بسم
اللہ	بسم	الرّحیم	الرّحمٰن
الرحمٰن	الرحیم	بسم	اللہ

یَا اللہ یَا رحمٰن یَا رحیم یَا حیّ

فلاں بن فلاں کے دلکو موم دل کر دو یا رسول قوم آپ کے قدم پاک سے پتھر ہوا ہے موم ـــــ بحق کٓھٰیٰعٓصٓ بحق حٰمٓ عٓسٓقٓ بحق طٰہٰ و یٰسٓ وجمیع قرآن مجید یَا اللہ بحرمت ان آیاتِ قرآنی و ان نقوش و دعاؤں کے فلاں کو بے تاب و بے قرار کر دے۔ یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم بحرمت آقا و مولا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحق لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاَھْلِبَیْتِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۝

دیگر

اگر کوئی شخص جائز محبت کے لئے مؤثر عمل چاہتا ہو تو سات روز

تک روزہ رکھے دودھ اور چاول سے افطار کرے۔ نمکین چیز نہ چکھے۔ اور ایک لاکھ ستر ہزار مرتبہ لفظ اَلَمۡ پڑھے۔ اور اوّل و آخر ہر روز سات مرتبہ بحرمتِ یوسف علیہ السلام پڑھ لیا کرے۔ ساتویں دن مصری کے سات چھوٹی چھوٹی ڈلیوں پر دم کرے مطلوب کو جائز محبت کے واسطے کسی طور سے کھلائیں۔ اگر ایک ڈلی بھی کھالیوے تو شیفتہ و فریفتہ ہو کر تابعدار ہو جائے۔ مگر یہ خیال رہے کہ ناجائز کے لئے ہرگز نہ کرے ورنہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ عمل رات کو پڑھا جائے گا۔ پڑھتے وقت عامل سِلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے۔ جگہ پاک و صاف ہو۔ سامنے ایک سفید رکابی رکھے اور اس میں گلاب پھول رکھے اور نظر اسی پر جمائے رکھے۔

دیگر برائے حب

ترکیب یہ ہے ذوجدین کے کسی مہینہ کی پہلی تاریخ سے شروع کریں اس کا حساب یونانی سن سے کیا جائے گا اور روزانہ ۲۰۰ مرتبہ یہ عمل ۱۷ روز تک پڑھے انشاء اللہ مطلوب مہربان ہو۔ ترک حیوانی پرہیز کی ضرورت نہیں بعد نماز عشاء پڑھے عمل یہ ہے

"اللہ حصار من صدر محمد مصطفیٰ پشت من
علی راست من حسن چپ من حسین قفل
کردم و مہر کردم بر قلب فلاں بن فلاں
بحق یا ودود یا ودود یا ودود بحق لا الٰہ
الا اللہ محمد رسول اللہ ـــــ"

محبت کے واسطے لکھ کر اوّل سات روز تک پتھر کے نیچے دابے بعد میں بازو پر باندھے۔ نقش یہ ہے۔



المحب ...... ابن ...... مطلوب را برائے ......
ابن ...... مسخر کردیم منقاد و مسخر گردید
روز حاضر آید و دالھائنہ رضائے طالب جوید العجل
العجل العجل الساعتہ الساعتہ الساعۃ الوحا الوحا
بحق طٰہٰ و یٰسین ن و ص بحق یا بدوح فسیکفیکھم
اللہ وھو السمیع العلیم بحق تعززت بالعزۃ
والعزۃ عزتک یا عزیز

دیگر

لونپنڈی جمعرات کو صبح کو مشک زعفران سے پان پر لکھ کر

پان پر معشوق کو کھلائے۔ محبت ہوگی۔



برائے محبت زن وشوہر

زن وشوہر نوشتہ زیر زمین دفن کند۔ بفضل تعالیٰ مقصد حاصل شود۔ نقش ایں است

۷۸۶

۱۸	۱۱	۱۶
۱۳	۱۵	۱۷
۱۴	۱۹	۱۲

یادردائیل یادائیل بحق
دال یادال یادائیل یامرائیل
بحق خ یاخ یاجبرئیل ومیکائیل
بحق ب یاب الحب فلاں را
محبت فلاں گرفتار شود

یہ دعا پڑھ کر اسمائے موکلوں کے کسی کو فریفتہ کرنا چاہے تو چالیس۴۰ مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کرے اور مطلوب کو کھلائے فریفتہ ہو مجرب ہے۔

عزمت عَلَیْکُمْ یَا معشر الارواح صاحب التمرد
الوسواس الخناس جنود ابلیس خاتم سلیمان بن
داؤد علیہم السَّلام وبحق ھاروت وماروت
ھو الاذکر للعالمین فلاں بن فلاں علی حب فلاں
بن فلاں۔

ایضاً

اس نقش کو جلا کر کسی چیز میں ملا کر کھلائے۔

۷۸۶

۲۲۷	۲۲۰	۲۲۵
۲۲۲	۲۲۴	۲۲۶
۲۲۳	۲۲۸	۲۲۱

دیگر برائے حب

صرف جمعرات وجمعہ کو لکھیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۷۸۶ بحق لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

۲۲۷	۲۲۰	۲۲۵
۲۲۲	۲۲۴	۲۲۶
۲۲۳	۲۲۸	۲۲۱

بحق اغثنی یاغوث الاعظم سید محی الدین شیخ محمد عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آں حب فلاں بنت فلاں برمحبت فلاں ابن فلاں کند مہربان شود فریفتہ و شیفتہ شود بزود مہربان

دیگر برائے حب

اِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ۔

۲۱ اکیس دانہ سیاہ مرچ پر سات مرتبہ طالب و مطلوب کے نام کے ساتھ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈال دے

لکھ کر آگ میں ڈالے مطلوب حاصل ہوئے آزمودہ ہے۔

ا	ج	ه	ز	ط	ك	م	س	ن	ق	ش	ث	ذ	ظ
ب	د	و	ح	ی	ل	ن	ع	ص	ر	ت	خ	ض	غ

دیگر برائے حب

اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے

۷۸۶

۱۴	۱	۸	۱۱
۷	۱۲	۱۳	۲
۹	۶	۳	۱۶
۴	۱۵	۱۰	۵

لکھ کر ہوا میں لٹکا دے مطلوب بے قرار ہو کر مطیع و فرماں بردار ہوگا۔

دیگر برائے حب

الا تعلو علی	بواتونی سلمین	تبارک اللہ احسن الخالقین	وبعلاہ اللہ وجلالہ
۷۱۹	۷۰۳	۱۶۲۰	۶۲۶
۱۶۲۱	۶۲۵	۷۲۰	۷۰۲
۶۲۴	۱۶۲۸	۷۰۵۰	۷۲۱
۷۰۴	۷۲۲	۶۲۳	۱۶۲۹

برائے حب و تسخیر :۔ کسی خوشبو میں پڑھ کر دیوے۔ یاحی یاقیوم یاالرحمٰن یارحیم بحق هٰذِهِ الاسماء۔ دل وجان ہوش وگوش وعقل وفہم و دسی شصت رگ واستخوان فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر

سورۃ اَلَمْ نَشْرَحْ سات مرتبہ نمک پر دم کر کے آگ میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ ظالم و حاکم سبھی تسخیر ہوں گے۔

حلوا پر اکتالیس مرتبہ پڑھ کر کھلائے۔ شوہر و زن میں الفت بڑھے گی۔ اِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثَیِ الَّیْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ وَاللّٰهُ یُقَدِّرُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔

اِنَّہٗ عَلٰی ذٰلِکَ لَشَہِیْدٌ وَاِنَّہٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ مرچ پر سات مرتبہ طالب و مطلوب کے نام کے ساتھ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈال دے۔

دیگر

چولہے میں دفن کریں مگر آگ ہر وقت جلتی رہے تاکہ گرمی پہونچتی رہے

فرعون	نمرود	شدّاد	ابلیس
ابلیس	شدّاد	نمرود	فرعون
نمرود	فرعون	ابلیس	شدّاد
شدّاد	ابلیس	فرعون	نمرود

عزازیل شیطان

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں
شیفتہ و فریفتہ کن کہ بے او یک ساعت
قرار نہ گرفت۔ اگر نکند تو ہفت طلاق
بر تو امادر و ہمشیرہ و صد ہزار لعنت بر تو

دیگر

وَاَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّۃً مِّنِّیْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَیْنِیْ ۴۱ دانہ مرچ پر ہر مرچ پر ۴۱ بار پڑھ کر آگ میں ڈالا جائے جب گوشت کے جلنے کی خوشبو آئے فوراً چھوڑ دیا جائے ورنہ محبوب مر جائے گا ـــ جائز مقصد کے لئے ورنہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

برائے موافقت زن وشوہر

چاند دیکھنے پر جو پہلی جمعرات آئے دن میں ایک سو ایک دانہ موم کی خالص تسبیح بنا دے اور ہر دانہ میں ایک ایک پرزہ کاغذ پر اوپر طالب کا نام نیچے مطلوب کا نام لکھ کر بھر دیا جائے رات میں بعد نماز عشاء ہر دانہ پر ایک ایک بار یہ آیت پڑھے۔ خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ وَعَلٰی سَمْعِہِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِہِمْ۔ اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف۔ ۲۱ یوم یا ۴۱ یوم مداومت کے ساتھ پڑھیں انشاء اللہ موافقت ہوگی۔

برائے تسخیر

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یا محمد عربی دور کرو لاچارگی سخت دل کو موم کرو یا رسول تو تمہارے قدم شریف سے پتھر ہووے موم۔ اللہ مرے من میں محمد مرے من میں یہ مصیبت مری دور کر دو اِک پل میں بحق لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ۔ اس عمل کو چالیس دن روزانہ ۱۲۱ بار رات ۹ بجے سے ۱۰ بجے تک کے درمیان پابندی سے وقت سے پڑھو۔ چالیس روز میں عامل ہو جاؤ گے پھر تین بار پڑھ کر جس کے پاس جاؤ گے مہربان ہوگا اور مقصد حاصل ہوگی۔

برائے تسخیر

حکام بائیں چٹکی میں دبا کر حاکم کے سامنے جائے کھلا ہوا

ہاتھ اپنے جانب رکھے۔ انشاء اللہ محکوم ہو جائے گا۔ یہ نقش اعلیٰ حضرت کے سفینہ کی نقل ہے۔

۷۸۶

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

بحق طٰہٰ و یٰسین و بحق نٓ و صٓ
حاکم ملائم دل گردد بحق یا بدوح

دیگر

برائے تسخیر خلائق بعد نماز فجر سو بار کھڑے ہو کر یا عزیز پڑھے سامنے بجانب مغرب دم کر دیں بعد میں داہنی جانب پھر پشت کی جانب پھر بائیں جانب پھر آسمان کی جانب پھر زمین کی جانب شش جہت گھیر لیں۔

دیگر:۔ اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُوْرَ اللّٰہِ کھڑے ہو کر شش جہت پر دم کر دیں۔ تسخیر خلائق کے لئے دونوں طریقے حضرت شیخ مدظلہٗ نے بتائے ہیں۔

دیگر:۔ خلائق و کشادگی رزق سورہ یوسف روزانہ پڑھے جس جا لفظ یوسف آئے ۵، ۷ مرتبہ یا عزیز پڑھے۔ انشاء اللہ رجوعات خلق و تسخیر عام و کشائش رزق ہو۔

دیگر

دیگر:۔ چالیس دنوں تک روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے سارے انسان

مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے۔ آزمودہ ہے۔

اَللّٰہُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِہٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ وَھُوَاللّٰہُ الْعَزِیْزُ

دیگر

یہ نقش ٹوپی میں کندہ کرائے۔



دیگر:۔ کٓھٰیٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ مُحَبَّۃً فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ

ایک وقت مقررہ پر ایک چلّہ ۲۱۲۵ اکیس سو پچیس بار ہر روز پڑھے۔ اول و آخر درود شریف ۲۱ مرتبہ بعد زکوٰۃ جس کو مسخر کرنا ہو تین کھلی یعنی ۳ عدد پان کھانا چاہئے۔ ہر پان پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اول و آخر ۱۱ گیارہ بار درود شریف اور پان کی سرخی دھوپ کو دکھلائے۔ پان کی پیک راہ میں پھینکے۔ یا کپڑے میں پیک دے کر اس کو اس کے پاس بھیجے بعد زکوٰۃ دعائے مذکورہ ۲۰ بار ہر روز پڑھے ورنہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ زکوٰۃ کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہدایۃً تاکید لکھ رہا ہوں۔

دیگر

اکتالیس بار لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ کو پڑھ کر مع اول و آخر درود شریف سات سات مرتبہ کسی خوشبودار تیل پر دم کر کے رکھ لے۔ جب کہیں جائیں تو اس میں تھوڑا سا تیل لے کر اپنے سر میں لگائیں۔ جس کے

پاس جائیں گے مطیع و فرمابردار ہو گا۔

دیگر

جب کسی ضروری کام سے کسی کے پاس جائے تو اوّل و آخر درود تین بار اور سات مرتبہ یَا بَاعِثُ اس کے بعد اپنے اوپر دم کر کے جائے۔

دیگر

اس آیت کو لکھ کر پانی کے نیچے ڈال دیں۔ اسے نہ نیند آئے گی نہ کھانا کھائے گا تا وقتیکہ وہ تیرے گھر نہ آ جائے۔

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهٗ فَهُوَ فِیْ عِیْشَةِ الرَّاضِیَةِ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِیَه وَمَا اَدْرٰکَ مَاهِیَه نَارٌ حَامِیَه —— طالب مطلوب کا نام ——

دیگر

نقش ۳۴ کو لکھ کر ٹوپی میں رکھے نیچے نام فلاں بن فلاں۔ فلاں بن فلاں پر مسخر کر دے لکھا جائے گا۔

۷۸۶

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

تسخیر کردن افسران و حاکمان:- اللہ نبی کل نور یا محمد رسول۔ میں اکیلا منزل دور مدد کر دو یا رسول صدقہ پنجتن پاک کا مسخر ہو حاکم مرا اس کو سات بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے مٹھی باندھ لیں اور افسر کو سلام کریں مہربان ہو جائے گا۔ مگر داہنا ہاتھ ہو۔

برائے حاکم:- اسم پاک یَا عَزِیْزُ ۱۴۱ بار بوقت صبح پڑھے ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیرے روبرو حاکم کے جب بھی جائے ایسا ہی کرے۔ یا گیارہ بار بوقت ضرورت پڑھ کر کف راست راست پڑھ کر کھڑا دیکھتا رہے۔

دفع دشمناں

اگر کسی کو دشمن چار طرف سے گھیر لیا ہے اور ہر طرح سے پریشان کرتے ہوں تو بعد نماز اوّل و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھ کر یہ رباعی اکیس بار پڑھیں انشاء اللہ سب دفع ہوں۔

خداوندا بحق داتی بلا را
ز آفت ہا نگہداری تو مارا
بحق ہر دو گیسوئے محمد
زبون گردان زبردستان مارا

برائے حُبّ قند سفید میں گولی بنا کر آگ میں جلادے اور وقف پڑھے۔ وقف ۹۹۸۳۲ اور چاہیے کہ محبت کے واسطے یہ دونوں نقش آپس میں لکھ کر گولی قند سفید میں باندھ کر کھلاؤ۔ محبت و دوستی ہوگی۔ جو نہ کھلا سکے تو دس وقف کو جلادے نقش معظم یہ ہے ←

۲۴ ۷۵	۲۴ ۸۹	۲۴۸۶	۲۴ ۸۲
۲۴ ۸۷	۲۴ ۸۱	۲۳ ۷۶	۲۴ ۸۸
۲۴ ۸۰	۲۴۸۴	۲۴ ۹۱	۲۴ ۷۷
۲۴ ۹۰	۲۴ ۷۸	۲۴ ۷۹	۲۴ ۸۵

نقش برائے حُبّ

۷۸۶

۱	۱۵	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۴
۶	۹	۱۷	۳
۱۶	۴	۵	۱۰

۷۸۶

۱۹۲	۲۰۶	۲۰۳	۱۹۹
۲۰۴	۱۹۸	۱۹۳	۲۰۵
۱۹۷	۲۰۱	۲۰۸	۱۹۴
۲۰۷	۱۹۵	۱۹۶	۲۰۲

چلانے کیلئے

۱	۱۵	۱۲	۹
۱۳	۸	۲	۱۴
۷	۱۰	۱۷	۳
۱۷	۴	۶	۱۱

۷۸۶

۱	۱۵	۱۲	۸
۱۳	۷	۲	۱۴
۶	۱۰	۱۷	۳
۱۶	۴	۵	۱۱

۷۸۶

۱۵۶	۱۷۰	۱۶۷	۱۶۳
۱۶۸	۱۶۲	۱۵۷	۱۶۹
۱۶۱	۱۶۵	۱۷۲	۱۵۸
۱۷۱	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۶

داہنے بازو پر باندھیں

اس نقش کو پہن کر سامنے جائیں مہربان ہوگا۔

نقش برائے فتیلہ تیار کر کے کورے چراغ میں جلائیں۔ رُخ مطلوب کے گھر کی طرف ہو۔

اکوادا۵ظ۸۱۱ط ات کو ۱۱۵ ۱۱ ۵

برائے حُبّ سات پھول لیکر سات مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دم کر کے سنگھا دیں مطلوب قابو میں ہوگا۔ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَ اَلْقَیْنَا عَلٰی کُرْسِیِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ فلاں ابن فلاں علی حب فلاں ابن فلاں۔

نقش سورۂ اخلاص برائے حُبّ

۷۸۶

قل	هو	الله	احد
الله	الصمد	لم	يلد
ولم	يو	لد	ولم
يكن	لهٗ	كفوًا	احد

اسکو لکھ کر محبوب کے گھر میں دفن کریں۔

نوٹ:- اس نقش کی زکوٰۃ ۳۱۲۵ بار ز سورۂ اخلاص عروج ماہ میں جمعرات سے شروع کرے۔ بعد عشاء

اور صبح کی نماز کے بعد ۴۱ عدد نقش سورۂ اخلاص لکھ کر آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں ڈال دیا کریں۔ بعد ۴۰ یوم کے عامل ہو جائے گا۔

حُبّ کا عمل ایک ہزار دانہ گندم کا گن کر ان پر ایک ایک مرتبہ ذیل کا عمل پڑھے۔ پھر ان دانوں کو کسی پاک برتن میں ڈال کر نرم آنچ میں گرم کرے۔ اس طرح سات دن یہ عمل کرے۔ دُعاء

یا رحمٰن بوحستہ فلاں بن فلاں در محبت فلاں بن فلاں گرم کرد۔

تسخیر محبوب کیلئے

عزیز گرداں در دلِ فلاں ابن فلاں بحق لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکیس ۲۱ بار مع درود شریف اوّل و آخر گیارہ گیارہ بار پڑھ کر شیرینی پر دم کر کے مطلوب کو کھلائیں۔

ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی بل لله الامر جمیعا ۵

نقش برائے محبت مابین زن و شوہر

۷۸۶

۲	۷	۶
۹	ع	۱
۴	۳	۸

۷۸۶

۵۰۰	۴۹۳	۴۹۸
۴۹۵	۴۹۷	۴۹۹
۴۹۶	۵۰۱	۴۹۳

۷۸۶

۲۴۳	۲۵۶	۲۵۳	۲۵۰
۲۵۴	۲۴۹	۲۴۴	۲۵۵
۲۴۸	۲۵۱	۲۵۸	۲۴۵
۲۵۷	۲۴۶	۲۴۷	۲۵۲

لکھ کر بازو پر باندھیں

حُبّ کیلئے :

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اللّٰہ۔ اللّٰہ۔ اللّٰہ۔ الا اللّٰہ۔ احدُ الصمد۔ الا اَحدُ الصمد اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ۔ ذوالجلال والاکرام۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ وَعَلٰى سَمۡعِهِمۡ وَعَلٰٓى اَبۡصَارِهِمۡ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ۔

سات بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔

نقش برائے عداوت و دشمنی

یہ دُعا لکھ کر کنویں میں ڈالیں۔ وَاَلۡقَيۡنَا بَيۡنَهُمُ الۡعَدَاوَةَ وَالۡبَغۡضَآءَ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ اِنَّمَا يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّوۡقِعَ بَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةَ

والبغضاء من الخمر والمیسر ویصد کم عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ فہل انتم منتہون بین فلاں بن فلاں علی العداوۃ والبغضاء فلاں بن فلاں العجل العجل الساعۃ الساعۃ۔



فلاں بن فلاں نیچے لکھیں

۲ نقش برائے نفاق



لکھ کر مکان میں ڈال دیں۔

۳ برائے دشمنی وعداوت

اس نقش کو ساعت مریخ میں منگل یا ہفتہ کے روز زوال قمر میں لکھ اور پرانی قبر میں ڈالو، فلاں بن فلاں کی جگہ ان دونوں کے نام لکھو جن کے درمیان عداوت ڈالنی ہے فوراً اثر ہوگا۔ نقش آئیکا لکھیں۔

۱۰ انت الذی	۱۱ لایطاق	۱۲ انتقامہ	۷ یاقاھر
۹ الشدید	۱۶ انت الذی	۱۵ لایطاق	۶ انتقامہ
۸ ذوالبطش	۱۳ الشدید	۱۴ انت الذی	۵ لایطاق
۱ یاقاھر	۲ ذوالبطش	۳ الشدید	۴ انت الذی

تباہی وبربادی دشمن کے لئے

بکری یا بکرے کا دل لائے اور یہ نقش ایک کاغذ پر لکھ کر نقش کے نیچے نام دشمن اور اس کے والدہ کا لکھ کر دل کو چیر کر اس میں رکھ کر سات سوئیاں اس طرح گاڑ دیں کہ وہ شگاف بند ہو جائے لیکن ہر سوئی پر سات مرتبہ اَلَمْ تَرَکَیْفَ پڑھ کر چبھو دیں اور پرانی قبر میں دفن کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ تین روز میں دشمن بیمار ہو جائے گا۔ حق پر کریں ناحق پر نہ کریں

یاعزرائیل

۳۲۲	۳۱۷	۳۲۴
۳۲۳	۳۲۱	۳۱۹
۳۱۸	۳۲۵	۳۲۰

یاعزرائیل

یاعزرائیل

فلاں بن فلاں رنجور گردد

دیگر

دُعائے حیدری ایک سیف قہر ربانی ہے۔ بحکم خدا دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور دشمنانِ اسلام ہلاک ہوتے ہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ اگر ہلاکے اعدائے اسلام اور فتح ونصرت لشکر اسلام کے لئے یہ دُعا پڑھنی چاہئے تو جماعت کثیر مسجد میں یا کسی پاکیزہ مکان میں پڑھیں۔ جس طرح ختم خواجگان کا طریقہ ہے۔ اور جماعت میں پڑھنے کے لئے فی کس تعداد ۲۱ بار ہے اور ہر شخص ایک جلسہ میں اکیس بار پڑھے۔ چاہے مجموعی تعداد ہزاروں لاکھوں

کیوں نہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے۔ مگر ہر آدمی ۲۱ مرتبہ پڑھ کر بلاکی دشمنانِ دین کے لئے دعا کریں۔ جب ایک آدمی مغلوبی دشمن کے لئے پڑھے تو ترکیب یہ ہے کہ ایک سو انہتر ۱۶۹ مرتبہ روزانہ پڑھے اس ترکیب سے کہ دشمن کا نام زمین پر لکھے۔ لکڑی کی نوک سے اور خاردار درخت جیسے ببول یعنی کیکر یا بیری کی شاخ ہاتھ میں لے اور تیرہ مرتبہ پڑھ کر شاخ پر دم کرکے تین مرتبہ اس نام پر مارے پھر تیرہ مرتبہ پڑھے اور نام پر مارے اس طرح تیرہ مرتبہ کرے کل تعداد ایک سو انہتر ۱۶۹ ہوگا۔ تیرہ مرتبہ پڑھو اور مارو اسی طرح تیرہ مرتبہ کرو بحکم خدا دشمن اظہار عاجزی کرے گا۔ یہ عمل سیف قاطع ہے اگر دشمن کا محمد یا اللہ یا بزرگ محترم کا نام ہے تو پھر زمین پر مت لکھو تصور سے دشمن کا خیال کرتے ہوئے زمین پر مارو۔ یہ تیرہ روز کا ہے۔ کوئی پرہیز مہینہ یا دن کی ضرورت و شرط نہیں ہے۔ دعائے حیدری یہ ہے۔

بِعَوْنِ اللّٰہِ الْجَلِیْلِ الْجَبَّارِ الْقَھَّارِ وَسَیْفِ سَیِّدِ
الْقَاھِرِیْنَ عَلٰی اَعْدَاءِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ مُحَمَّدٍ
الرَّسُوْلُ اللّٰہِ عَلٰی رَقَبَۃِ فلاں بن فلاں (نام دشمن مع والدہ) وَذُوالْفِقَارِ
حَیْدَرِ کَرَّارِ عَلٰی قَلْبِ ______ فلاں بن فلاں
یَا حَیْدَرُ یَا حَیْدَرُ یَا اَسَدُ اللّٰہِ

●

دیگر گھوڑے کے پرانے نعل پر دشمن کا نام مع والد کے تحریر کرے اور اس کے نیچے یہ نقش اور آگ میں ڈال دے دشمن بے چین ہوکر

صلح کرنے کی کوشش کرے گا۔ نقش یہ ہے



برائے مفارقت، یا دشمن سے حفاظت: عمل کریں و حسب ذیل طریقے سے پڑھیں۔ مذکورہ درود شریف اول و آخر گیارہ مرتبہ پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الْجَلِیْلِ الْجَبَّارِ الْقَاھِرِ الْقَھَّارِ ۝
درود:۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْقَاھِرِیْنَ عَلٰی اَعْدَاءِ
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

برائے مفارقت:۔ اگر دو شخصوں میں مفارقت مقصود ہو تو پہلے بلی کی پونچھ کے تین بال اور چوہے کی پونچھ کے تین بال علیحدہ علیحدہ کاغذ میں باندھو۔ سنیچر کے دن سورج نکلنے سے قبل ایک کاغذ پر ایک کا نام اور دوسرے کاغذ پر دوسرے کا نام الٹے قلم سے لکھے یعنی جس طرف لکھنے کی نب لگتی ہے۔ اس کی طرف سے لکھے۔ مگر قلم کی صورت نہ بنائیں۔ اب دونوں کاغذ کو اپنے دونوں طرف رکھو درمیان میں خود بیٹھو۔ اور ایک پڑیہ پر پڑھو۔ یَامُعِزُّ اور دوسرے پڑیہ پر نظر کرکے پڑھو [illegible] اس طرح ننانوے مرتبہ پڑھو۔ بعد ازاں دونوں پڑیاں ایک چولہے کے ایک جانب اور دوسرا دوسرے جانب دفن کردو۔ خدا چاہے تو تین دن میں مفارقت ہوگی۔

عداوت و بغض کے لئے:- سات عدد آک کے پتوں پر طلسم مذکور لکھے اور روزانہ ایک پتہ اذانِ مغرب سُن کر گرم چولہے میں جلا دے اور جب پتہ جلتا رہے اس پر نگاہ جمائے رکھے اور کہے کرنا جائز تعلق جل رہا ہے۔ یہ عمل سنیچر سے شروع کرے اور جمعہ کو ختم کرے۔ طلسم یہ ہے۔



فلاں بنت فلاں درمیان فلاں بنت فلاں

برائے مقہوری: اعدا کسی پرانی قبر سے اینٹ اٹھا لائے اور اس پر سورہ فیل لکھے دشمن کے نام کے ساتھ اس پر اکیس ۲۱ مرتبہ سورہ فیل پڑھ کر دم کرے اس کے بعد اینٹ کو کنوئیں میں ڈال دے دشمن پاگل ہو جائے گا۔ جب تک وہ اس کوئیں کا پانی نہ پیئے گا اچھا نہیں ہو گا۔

البغض: سیاہ مرچ کے چالیس ۴۰ دانوں پر سورہ الفیل پڑھ کر دم کرے اور جن کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہو ان کا نام لے کر آگ میں ڈال دے۔ عداوت ہو گی مجرب ہے۔

برائے مقہوری دشمن: سورۃ نصر دوپہر یا بعد نماز عصر چالیس ۴۰ دانے سیاہ مرچ پر یا قدرے رائی پر بغیر تمیز کے ۲۱ بار پڑھے اور دم کر کے دشمن کے گھر میں ڈال دے۔

برائے عداوت:- کاغذ پر لکھ کر کنوئیں میں ڈال دے۔ اگر کسی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور ان دونوں میں عداوت کرانی ہے تو انشاء اللہ دونوں کے اندر جدائی واقع ہو۔

۱۷ ۱۹ ۱۸ ۱ ۷ ۱۲ ۹ ۶ ۱۱ ۱۱ ۲۹

کہیعص کہیعص معو موکل دو نو ط

دیگر

گھر کی ویرانی و بربادی مکان بیت میں باہم جنگ کے لئے اس نقش کو لکھ کر کنوئیں میں ڈال دے یا آگ میں جلا دے جدائی واقع ہو گی۔

۱۳	۲۰	۱۵
۱۸	۱۶	۱۳
۱۷	۱۲	۱۹

۱۳	۱۲	۱۹
۱۸	۱۶	۱۳
۱۳	۲۰	۱۵

جو اس دعا کو پڑھے گا کفار اس پر غالب نہ آئیں گے۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

برائے مقہوری دشمن:- لَا اِلٰہَ کی کمان اِلَّا اللہ کا تیر دشمن کی چھاتی پھاڑ چیر۔ سو مرتبہ تا مقہوری اعدا پڑھے۔

برائے عداوت :- اس تعویز کو لکھ کر آگ میں ڈالے۔

۹ ۷ ۹ ۳۵ ۱۱ ۵ ۱۱ ۳۳

اَلْقَیْنَا بَیْنَہُمُ الْعَدَاوَۃَ وَ
الْبَغْضَآءَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ

دیگر

اس نقش کو لکھ کر کوئی ترش چیز ڈالکر دفن کر دے تاقیامت جدا ہو۔

۶۵	۷۸	۷۵	۷۲
۷۶	۷۱	۶۶	۷۷
۷۰	۷۳	۸۰	۶۷
۷۹	۶۸	۶۹	۷۴

فلاں بنت فلاں۔ و فلاں بن فلاں
تاقیامت جدائی شود۔

دیگر

سورۃ الم نشرح ۳ مرتبہ، سورہ کوثر ۳ مرتبہ پڑھ کر مٹی پر دم کرکے دونوں کے گھر میں ڈال دے۔ انشاء اللہ دونوں میں عداوت ہوگی

برائے مقہوری اعدا :- اگر ۱۲ عدد کلوخ پر اس آیت کو ۱۲ مرتبہ دم کرکے دشمن کے گھر کی دیوار پر مارے تو دشمن مقہور ہو مسلسل ۱۲ یوم تک کرے۔ کُلُّ مَنْ عَلَیْہَا فَانٍ وَّیَبْقٰی وَجْہُ رَبِّکَ

ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِکْرَامِ ۔

لِلْبغض :- سورہ ناس۔ سورہ کے ہر مقام پر لفظ ناس کو سات مرتبہ کہے اس طرح طالب و مطلوب کے نام کے ساتھ مسلم ثابت سرخ مرچ پر دم کرے اور جلائے الناس تک دم کرے پوری سورہ پڑھ جائے۔

برائے بغض و عداوت :- سورہ اَلَمْ نَشْرَحْ تین مرتبہ اِنَّا اَعْطَیْنٰکَ تین مرتبہ مٹی پر دم کرکے دونوں کے گھر میں ڈال دیں۔ جدائی ہوگی۔ مجرب ہے۔

دیگر: اگر کوئی دشمن ظلم کرتا ہو تو ایک مٹھی چوراہے کی خاک پر پڑھ کر دشمن کے دروازے پر پھینک دے مطیع و فرمانبردار ہوگا۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ
وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

دیگر: گیہوں کے آٹے کی روٹی پر نیچے لکھی شکل کو لکھ کر سیاہ کتے کو کھلائیں۔

۲ ۹ ۹ ۸ ۸ ۱ ۱ ۱ ط ط ۸ ۸ ۱ ۵

فلاں بن فلاں علی بغض فلاں بن فلاں

برائے استخارہ

جس سے حال معلوم ہو اور مردہ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اول دو رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والشمس سات بار۔ دوسری میں سورہ واللیل سات بار الحمد شریف کے بعد اور اس نقش کو لکھکر اپنے تکیہ کے نیچے رکھکر سو جائے۔ حال معلوم ہوگا۔ اور اگر مردے سے ملاقات کرنا ہے تو ملاقات ہوگی۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ا	ل	م	ص
ل	م	ص	ا
م	ص	ا	ل
ص	ا	ل	م

◆

دیگر:۔ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر سفید کاغذ پر سوتے وقت داہنی بازو پر باندھ کر سو جائیں انشاءاللہ کل حال معلوم ہو جائے گا۔ اگر پہلے شب میں نہ ہو تو متواتر تین شب کے اندر معلوم جائے گا۔

۷۸۶



◆

دیگر اول و آخر ایک سو بار درود شریف بعدہٗ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ پڑھ کر نیت و کام کا خیال کر کے الک حقیقی سے عرض کر کے باوضو شب میں سو جائیں انشاءاللہ خواب میں سب حال معلوم ہو جائے گا۔

◆

دیگر پیر یا جمعرات یا بدھ ان راتوں میں کسی رات کو لکھ کر اور اپنے مقصد کا تصور کر کے اپنے سرہانے رکھ کر سو جائے انشاءاللہ تعالیٰ تمام حالات معلوم ہو جائیں گے اور شرط پرہیز نہیں ہے

۷۸۶

۷	۹	۶	۹
۶	۹	۷	۵
۸	۹	یا خبیر	۷
۵	۸	۸	۶

◆

دیگر کسی معاملہ میں حیران و پریشان ہوں تو سونے سے قبل ۱۰۰ مرتبہ درود شریف پھر ۲۰۰ مرتبہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ طلبا اسی قدر پھر درود شریف ۱۰۰ مرتبہ پڑھو بعد ختم اس مقصد کے حل ہونے کی دعا کر کے پاک بستر پر باوضو سو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ اسی شب میں حال معلوم ہو جائے گا۔

◆

دیگر بعد طہارت و وضو کے ہزار بار لاحول ولاقوۃ الا باللہ تک پڑھے۔ اور اس نقش مثلث کو لکھ کر تکیہ کے نیچے رکھے جو دلی مراد ہو اس کا تصور کر کے سوئے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۵۸	۵۱	۵۶
۵۳	۵۵	۵۷
۵۴	۵۹	۵۲

◆

دیگر یہ تعویذ جملہ مقاصد اور جملہ کاموں میں بہتر ہے لکھ کر موم جامہ کر کے باندھیں زعفران سے لکھیں اور دھو کر پلائیں۔ رات میں سوتے وقت سرہانے رکھ کر کام یا احوال کا تصور کر کے سو جائیں۔ خواب میں حال و احوال سب معلوم ہو جائیں گے۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَا رَحْمٰنُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحْمٰنُ
یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ
بحق لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کٓھٰیٰعٓصٓ

◆

دیگر بدھ جمعرات جمعہ کی رات کو برابر نماز عشاء کے بعد سب کاموں سے فارغ ہو کر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تین سو مرتبہ پڑھ کر سورہ الم نشرح

سے بسم اللہ ۱۷۵ بار پڑھے اور اپنے منہ اور سینہ پر دم کرے اور خداوند تعالیٰ سے دعا کرے کہ فلاں امر میں جو ہونے والے ہیں وہ مجھ کو خواب یا غنودگی میں کسی آواز دینے والے کی آواز سے معلوم کرا دے اس کے بعد یہ درود شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر سو رہے۔ درود یہ ہے۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَعْلُوْمٍ لَّکَ۔ دوسری جگہ یہ درود ہے۔
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ بعدد کل معلوم لَّکَ

◆

بعد نماز عشا با طہارت معطر و مصفا بستر پر لیٹیں اول ۵ بار درود شریف پڑھ کر لاتعداد یا النور الباسط پڑھتے رہیں نیند آنے لگے تو ۵ بار درود شریف پڑھ کر سو رہے۔ مراد دل میں رہے۔

◆

برائے فتوح رزق

زعفران سے باوضو قبلہ رخ ہو صبح کی نماز کے بعد ۴۸۹ چار سو نواسی نقش لکھ کر آٹے کی گولی میں بنا کر مچھلی کو چالیس دن کھلائیں انشاءاللہ رزق بکثرت ہو۔

۷۸۶

ن	ت	ا	ح
ح	ا	ت	ن
ت	ن	رزق از غیب رسا	ا
ا	ح	ن	ت

کشائش رزق

اس کو لکھ کر آویزاں کریں اور پہن لیں خیر و برکت کے لئے یہ تعویذ زعفران اور عرق گلاب سے لکھ کر دوکان یا مکان میں لٹکائیں اور ہر جمعرات کو تعویذ پر خوشبو کی دھونی دیا کریں۔


بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
یا عزرائیل علیہ السلام
یا جبرائیل علیہ السلام
لا الٰہ الا اللہ
محمد رسول اللہ
۸ ۱ ۶
۳ ۵ ۷
۴ ۹ ۲
لا الٰہ الا اللہ
ابراہیم خلیل اللہ

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

ترقی رزق

۷۸۶

۳۶۶۴	۳۶۷۷	۳۶۷۴	۳۶۷۱
۳۶۷۵	۳۶۷۰	۳۶۶۵	۳۶۷۶
۳۶۶۹	۳۶۷۲	۳۶۷۹	۳۶۶۶
۳۶۷۸	۳۶۶۷	۳۶۶۸	۳۶۷۳

۷۸۶

۶۹	۸۳	۸۰	۷۶
۸۱	۷۵	۷۰	۸۲
۷۴	۷۸	۸۵	۷۱
۸۴	۷۲	۷۳	۷۹

نقش برائے ترقی رزق مکان یا دوکان میں لگائیں۔


بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
یا جبرائیل علیہ السلام
یا دردائیل علیہ السلام
یا میکائیل علیہ السلام
یا اسرافیل علیہ السلام
لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ
یا حی یا قیوم
۷۸۶
۳۳۲ ۳۳۷ ۳۳۶
۳۳۹ ۳۳۵ ۳۳۱
۳۳۴ ۳۳۳ ۳۳۸
لا الٰہ الا اللہ آدم صفی اللہ
لا الٰہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ
لا الٰہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمانی رحمۃ اللہ علیہ

خیر و برکت

ا ح ۷۸۶ ر س

ھ	۲۳۴	۲۲۷	۲۳۲	ق
ھ	۲۲۹	۲۳۱	۲۳۳	ہ
ق	۲۳۰	۲۳۵	۲۲۸	ل

ے م ھ ی

وسعت رزق کیلئے وسعت رزق کیلئے درمیان مغرب و عشاء کے اس آیت کو ۶۳۸ مرتبہ پڑھا کریں۔ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا وَّیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ یَّتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰہِ فَہُ

حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ؕ

رزق میں کشادگی اور برکت جب رزق اور برکت کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء اَلرَّزَّاقُ اَلْوَهَّابُ اَلْفَتَّاحُ اَلْغَنِيُّ اَلْمُغْنِيُّ مخمس میں لکھے اور اپنی حاجت اس کے وسط میں لکھے پھر آیۃ شریفہ کو تین سو تیرہ دفعہ پڑھکر اور ہر سیکڑے پر جو مناسب ہو دعا مانگنی چاہیے۔ عنبر و مشک سے بخور یعنی دھونی کرنی چاہیے۔ اور ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ یہ نقش مخمس عمامہ میں رہے۔ تمام ذکر کرنے کے آٹھ دن ہیں اور قول اللہ کریم کی جانب سے ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ يَا رَزَّاقُ مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَسِبُ۔ اَللّٰهُمَّ يَا وَهَّابُ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ يَا فَتَّاحُ اِفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ الْغِنَاءِ اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ اَغْنِنِيْ اَللّٰهُمَّ يَا مُغْنِيُّ اَغْنِنِيْ بِخَيْرِكَ وَبِرِّكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور نقش مخمس یہ ہے۔

۷۸۶

۵۹۵	۶۲۰	۶۱۳	۶۰۷	۶۰۱
۶۰۸	۶۰۲	۵۹۶	۶۱۴	۶۱۵
۶۱۷	۶۱۱	۶۰۹	۶۰۳	۵۹۷
۶۰۴	۵۹۸	۶۱۸	۶۱۲	۶۰۷
۶۱۲	۶۰۶	۶۰۰	۵۹۹	۶۱۹

واسطے فتوحات یا دست غیب کے۔

یَامَلِكُ یَا اَللّٰهُ دعوت کبریٰ ایک لاکھ چھپن ہزار چالیس روز میں پورا کریں۔ ترقی عہدہ و رجوع خلائق طریقہ وسطی ستر ہزار مرتبہ چالیس روز میں پوری کریں۔ دعوت صغرا روزانہ سات سو بار پڑھیں اور یہ نقش روزانہ ستر عدد لکھ کر آٹے کی گولی میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ فتوحات ہونے لگے گی۔ لیکن کسی سے ظاہر نہ کریں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف ضروری ہے۔ ماہ عروج میں جمعرات سے شروع کریں۔ نقش یہ ہے۔

۱۲	۶۵	۷۸
۱۰۴	بطریق غیب خرچ عطا شود بحق ہذا نقش	۵۲
۳۹	۹۱	۲۶

❖

برائے ترقی تجارت

اسم یَا نَافِعُ کو سوا لاکھ بار پڑھیں ایک چلہ میں دوسرا طریقہ دو ہزار دس مرتبہ چالیس دن میں پڑھیں۔ تیسرا طریقہ روزانہ آٹھ سو چار مرتبہ پڑھیں یَا نَافِعُ اس نقش کو نیک ساعت میں لکھ کر مال میں رکھیں۔ نقش آئندہ صفحہ میں موجود ہے

۷۸۶

۶۱	۷۱	۶۹
۶۵	۶۷	۵۹
۶۵	۶۲	۷۳

◆

برائے کشائش رزق

یَا لَطِیْفُ اُلْطُفْ بِلُطْفِكَ
یَا حَلِیْمُ یَا کَرِیْمُ یَا غَفُوْرُ

ایک سو ایک بار بعد ہر نماز پڑھیں۔

◆

چالیس جمعہ تک گیارہ مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھے۔ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ ط اور جمعہ کے بعد کاغذ پر اس آیت کو لکھ کر کنوئیں میں ڈالا جائے وَلَقَدْ مَکَّنّٰکُمْ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْھَا مَعَایِشَ قَلِیْلًا مَّا تَشْکُرُوْنَ ط انشاء اللہ تو انگر و غنی ہو جائے۔

◆

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ کوثر میں رحمت و فیض کے خزانے ہیں۔ جس کسی نے اس سورۃ شریف کا عمل کیا اس کے واسطے پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں تو عجب نہیں۔ ترکیب یہ ہے کہ دن رات میں دفعہ دفعہ کرکے یا ایک ہی نشست میں سات سو چھبیس مرتبہ پڑھیں۔ انشاء اللہ چلہ کے اندر خاص اثر اس ورد کے شروع ہو جائیں گے۔

◆

دفع تنگی رزق

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَۃٌ
بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا ط

ترکیب: — ۴۱ بار روزانہ تین چلے پڑھیں بعد نماز عشا۔ مگر نماز پڑھ کر فوراً لیٹ کر داہنا ہاتھ داہنے کان کے نیچے رکھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان آیت پاک ۴۱ بار پڑھیں اور چپ سو جائیں پلنگ پر نہ سوئیں بلکہ تخت پر یا زمین پر سوئیں۔ نیند لگ جانے کے بعد اگر آنکھ کھل گئی یا اور کسی سے کوئی بات کیا اٹھ کر کوئی کام کیا تو منع نہیں ہے۔ اگر اتفاق سے سخت ضرورت پر نیند آنے کے قبل کسی سے بات کیا تو عمل ٹوٹ گیا فوراً وضو کرکے چار رکعت نماز نفل ادا کریں۔ دوبارہ اسی ترکیب سے پڑھیں۔ پرہیز گوشت مچھلی انڈا پیاز لہسن مولی وغیرہ۔ دودھ دہی مجبوراً کھا سکتے ہیں۔

◆

دیگر ایک سو ایک بار ورد میں رکھے۔ بعد نماز صبح بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط یا فرد یا وتر یا احد یا صمد

◆

برائے حافظہ

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تعلیم فرمایا ـــ "قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے رسالت عطا فرمائی۔ یہ عمل مومن کے لئے خطا نہیں کرتا۔ جمعہ کی شب کو سو بار پڑھیں۔ حدیث ترمذی شریف میں

بہت طولانی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِىْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِىْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِىْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِىْ فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِىْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ؕ

◆

دیگر۔ اگر کسی کا دماغ کمزور ہے تو اس نقش کو لکھ کر زعفران سے سر میں باندھے کمزوری دماغ جاتی رہے گی نقش یہ ہے۔

۱۳	۳۰	۲۳	۲۸
۳۶	۲۶	۱۶	۳۸
۲۴	۳۰	۴۳	۱۸
۴۲	۳۰	۲۳	۳۲

◆

دیگر۔ جو لڑکا کند ذہن ہو پڑھنے سے بھاگتا ہو یا امتحان میں فیل ہو جاتا ہو یہ نقش زعفران سے باوضو لکھ کر چاندی کی انڈلی میں محفوظ کرکے بچے

کے گلے میں ڈالیں۔ نقش بدھ کے روز طلوع آفتاب کے بعد تحریر کریں۔ اور روزانہ یہی آیت شریف کسی شیرنی پر تین دفعہ پڑھ کر صبح و شام اس بچے کو کھلادیا کریں۔ صرف سات یوم کریں خدا چاہے تو ذہن روشن ہوگا۔ تعویز گلے میں رہے۔ آیت یہ ہے۔ "نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ"۔

۷۸۶

نون	وَالْقَلَمِ	وَمَا	يَسْطُرُوْنَ
وَالْقَلَم	وَمَا	يَسْطرون	نُوْن
وَمَا	يَسْطُرُوْنَ	نون	والقلم
يسطرون	نُوْن	والقلم	وَمَا

◆

دیگر۔ کشادگی ذہن و دفع نسیان سات دن تک سورۃ فاتحہ کو باوضو ۷ بار پڑھ کر دم کرکے پی لے۔ اللہ تعالیٰ اسکو علم و حکمت عطا کرے گا اور اسکے دل سے فاسد افکار کو دور کرے گا اور اس کے ذہن و حافظہ میں ترقی ہوگی۔

◆

دیگر۔ علم و اسباق پڑھنے کے بعد یاد نہ رہتا ہو تو اس نقش کو روزانہ صبح کے وقت دیکھے۔ انشاء اللہ یاد ہو جائے گا اور جو پڑھے گا نہ بھولے گا۔

۷۸۶

ص ص	ع ع	وت	ط ط	ط ط
د د	ع ع	ص ص	دت	ع ع
ط ط	د ص	ع ص	ع ع	ع ع
د ط	ط ط	ط ط	ع ع	ع ع

دیگر: جو شخص آیت الکرسی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھ کر چاٹ لے تو حافظہ بڑھ جائے۔ مسلسل سات دنوں تک کرے۔

* * *

امتحان اور مقدمے کی کامیابی کے لئے

اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں گرفتار ہو تو اس کو چاہیے کہ روزانہ پندرہ نقش لکھ کر گولی بنا کر آٹے میں لپیٹ کر پانی میں ڈال دے جس میں مچھلی ہو اگر ایسا نہ ہو تو پاک زمین میں دفن کر دے۔

۷۸۶


یا سلام اسلمنی
یا حفیظ احفظنی

* * *

دیگر: برائے ہر کار مشکل بست در بست عدد بدوح برائے جمیع کار و فتح یابی خوب است۔


۱۰
۱
۶
۲
۳
۴
۹
۸
۷

دیگر: امتحان مقدمے و دیگر تمام مہموں کے لئے بازو پر باندھ کر جائیں کامیاب رہیں گے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶


۱
۱۳
۱۱
۸
۱۲
۷
۶
۲
۱۳
۱
۷
۸
۵
۲
۳
۹
۹
۴
۱۶
۶
۳
۱۵
۴
۵
۱۰

* * *

دیگر: نقش کامیابی امتحان

۷۸۶

۱۵۵۲	۱۵۶۶	۱۵۶۲	۱۵۵۹
۱۵۶۳	۱۵۵۸	۱۵۵۳	۱۵۶۵
۱۵۵۷	۱۵۶۰	۱۵۶۸	۱۵۵۴
۱۵۶۷	۱۵۵۵	۱۵۵۶	۱۵۶۱

گمشدہ و مفرور کے لئے

الٰہی بحرمت حضرت خواجہ ابواسحاق گازرونی چیز گمشدہ است باز آید گیارہ مرتبہ اوّل و آخر درود شریف تین مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرکے چاروں سمت پھونک کر دستک دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد مفرور و گمشدہ واپس آجائے گا۔ بعدہٗ حسب حیثیت صاحب موصوف کے نام فاتحہ دے کر بچوں میں تقسیم کردے۔

❖

دیگر:- مفرور کی واپسی کے لئے پتھر کے نیچے دبائے۔

بسم ۷۸۶ راہ مغرب

بسم ۷۸۶ راہ شمال

[illegible]

ا	بدوح	و
بدوح	فلاں ابن فلاں	بدوح
۹	بدوح	ح

[illegible]

❖

دیگر: جس جگہ سے آدمی یا چیز گم ہو جائے تو بیچ میں کھڑے ہو کر ۷ بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں انگوٹھے والی انگلی کے سرے کو سر کے اردگرد پھیرتے جائیں پھر تین بار اصبحت فی امان اللہ امسیتُ فی جوار اللہ پڑھیں۔ انسان یا جن یا پری لے گئی ہو تو مجرب ہے۔

دیگر: سورۃ یٰسین کو مبین الکریم تک لوہے کے تالے پر جو کنجی سے کھلتا ہو اور بند ہوتا ہو۔ اس پر سات مرتبہ پڑھ کر جاری پانی میں ڈال دے یا کوئے گھڑے میں ڈال کر منہ بند کردے۔ جب تک مفرور واپس نہ آئے تالا نہ نکالے۔ مجرب ہے۔

❖

دیگر: اگر کوئی شخص فرار ہو یا مکان آنے سے انکار کرتا ہو تو یہ آیت ایک کاغذ پر لکھے اور اس کو جہاں سے وہ بھاگا ہے وہاں لٹکائے۔

اَیْنَمَا تَکُوْنُوْا یَاْتِ بِکُمُ اللّٰہُ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

❖

دیگر: مفرور کے لئے اگر ہزار بار اَصْبَحْتُ فِیْ جِوَارِ اللّٰہ پڑھے ایک جلسہ میں تو مفرور حیران و سرگرداں واپس آئے مجرب ہے۔

❖

دیگر: یہ نقش لکھ کر بیل کے درخت میں اونچی جگہ پر لٹکائے مفرور واپس ہو۔

جبرائیل ۷۸۶ میکائیل

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

عزرائیل اسرافیل

❖

دیگر: اگر کسی کو بھاگنے کی عادت ہو اور بار بار بھاگتا ہو تو یہ آیت اسکو لکھے اور اس شخص کو ایک ہفتہ تک دھو کر پلائے

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا وَكَفٰى
بِاللّٰهِ نَصِيْرًا وَكَفٰى بِاللّٰهِ رَسُوْلًا

⁂

اس نقش کو مفرور کے کپڑے پر لکھ کر جلائے۔ فوراً واپس آئے گا۔

باسلیہ
شانسلان
باز آید

باسلیہ
شانسلان
باز آید

⁂

برائے مال مسروقہ:۔ اس نقش کو لکھ کر بلندی پر لٹکا دے جیسے جیسے اس میں آفتاب کی گرمی پہونچے گی چور کا دل بے تاب ہوگا۔ اور وہ فوراً مال کو مکان میں پھینک جائے گا۔

۷۸۶

۳۰	۴۵	۴۲	۳۸
۴۳	۳۷	۳۱	۴۴
۳۶	۴۰	سارق ۴۷ مال مسروق	۳۲
۴۶	۳۳	۳۵	۴۱

⁂

کسی چیز کے گم ہو جانے یا چوری ہو جانے پر۔ درود شریف ۳ بار

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا عَلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۵ بار پڑھے۔ سورۂ اخلاص ایک بار پڑھے۔ پھر درود شریف تین بار پڑھے۔ اور پھر کہہ دے فلاں وقت تک آجائے گا یا مل جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور ہوگا۔ درمیان میں پڑھتے وقت بات نہ کریں۔

⁂

برائے مفرور

اجھنط

فلاں بنت فلاں یا فلاں ابن فلاں
جہاں کہیں ہو فوراً آوے

دیگر: اس کو لکھ کر چرخہ میں باندھ کر روزانہ الٹا آدھ گھنٹہ تک گھماوے۔ مخدوم صاحب کا ارشاد ہے۔

⁂

دیگر: سورۂ والتین کو دو ہزار بار پڑھے اور یہ نقش لکھ کر پتھر کے نیچے دبائے۔ خدا کے حکم سے غائب حاضر آئے۔

۷۸۶

۲۱۹۶	۲۱۱۰	۲۱۰۷	۲۱۰۳
۲۱۰۸	۲۱۰۲	۲۱۹۷	۲۱۰۹
۲۱۰۱	۲۱۰۵	۲۱۱۴	۲۱۹۸
۲۱۱۱	۲۱۹۹	۲۱۰۰	۲۱۰۶

⁂

دکان و مکان جان و مال کی حفاظت کیلئے

کسی مکان میں کوئی خطرہ کسی بلا کا ہو یا گھر والے کسی نہ کسی بیماری میں گرفتار رہتے ہوں پانچ ٹھیکریاں کوری لے کر بعد نماز عصر ہر ٹھیکری پر پانچ مرتبہ باوضو سورۃ والعصر پڑھ کر دم کر کے چار ٹھیکریاں چار کونے پر اور ایک بیچ صحن میں دفن کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ وہ مکان ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔

◆

دیگر: حفاظت کے لئے تعویذ خاص سورۃ فاتحہ لکھنے کے بعد دعاء غفوری' نقش بسم اللہ' نقش قل ہو اللہ' نقش یا حافظ' نقش پندرہ نقش بیس اس کے بعد اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لکھنے کے بعد نام اصحاب کہف و سزا بولذری بحق لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ پھر انتیس ۲۹ بار ق۔ اس کے بعد برحمتك يا ارحم الراحمين بحق خواجہ معروف کرخی اس کے بعد سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ لکھا جائے گا۔ دعائے غفوری یہ ہے۔ ام ع ن ح ح ج م ا ع بحرمت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ بحق کہیعص بحق حمعسق

◆

دیگر: برائے حصار مکان بر بیضہ مرغ نقش ذیل نوشتہ شود

۲۳

۲۵

۲۱	۳۳	۳۱	۲۸
۳۲	۲۷	۲۲	۳۲
۲۶	۲۹	۳۶	۲۲
۳۵	۲۳	۲۵	۳۰

سزا بولذری بوشا سوما ما لما طیر سرا سلیخا لیخا لقوا یا تسیرا بحق کہیعص بحق حمعسق الٰہی بحرمت یملیخا مکسلمینا کشفوطط ذر نطبونس کشا فطیونس بترلنس بوالنس بوس دکلہم قطمیر و علی اللہ قصد السبیل و منہا جائر بحرمت سید اوحد الدین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ و بحرمت حضرت سید عبد الرزاق نور العین فرزند سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہٗ۔

◆

برائے کشادن دکان:- ایک نقش لکھ کر دکان میں چسپاں کرے ایک نقش فریم کرا کر لٹکائے۔ اور ایک فلیتہ بنا کر دکان میں جلائے اور ایک اپنے پاس رکھے۔

۷۸۶

۲۰	۳۲	۳۰	۲۷
۳۱	۲۶	۲۱	۳۲
۲۵	۲۸	۳۵	۲۲
۳۳	۲۲	۲۳	۲۹

ڈراؤنا خواب

اگر کوئی شخص خواب میں ڈرتا ہو یا دانت پیستا ہو تو اس کو ہلدی سے لکھ کر گلے یا سرہانے میں رکھ کر سو جائیں۔ سب حرکتیں موقوف ہوں۔

یملیخا	مکسلمینا	کشفوطط
اُزرنطیونس	وَلَوْشَآءَاللّٰهُ لَهَدٰكُمْ جَمِيعًا	تبیونس
یوانس	بوس	واسم کلبھم قطمیر

✣

کچھ بچے رات کو ڈرتے ہیں۔ بعضوں کو پیشاب بستر پر نکل آتا ہے۔ بعض بچے نظر بد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ گائے، بکری اور بھینس کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اس نقش کو شنبے کے روز طلوع آفتاب کے پندرہ منٹ بعد لکھ کر گلے میں ڈال دیں ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

صحم	ع	صم	۸۲
صبح	۸۵	ہ	م
صلع	ص	۹۲	ح
یصلح	م	۶۶	۱

✣

بچے کو نظر لگ جاتی ہے یا رات کو خواب میں ڈرتے ہیں یا دانت پیستے ہیں یا رات کو سوتے میں پیشاب کر دیتے ہیں ایسے بچوں کے

واسطے سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ الرَّحِیْمِ مع بسم اللہ شریف کے لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں ان شاء اللہ تمام شکایتیں رفع دفع ہوں۔

✣

اگر کوئی بچہ خواب میں بستر پر پیشاب کرتا ہو تو یہ تعویذ اس کے کمر میں باندھیں۔

اللہ اللہ	محمد محمد	علی علی
وہ ل	دل ل	رب ب

✣

اگر لڑکا شریر بے قابو ہو تو یہ طریقہ اختیار کریں اور اگر بد خوابی بڑھ گئی ہو تو اس آیت کو روزانہ دم کریں۔ اور اکتالیس ۴۱ بار پڑھ کر کشمش پر دم کر کے ہر روز نہار منہ ۵ یا ۷ دانہ کھلایا کریں اور کشمش کو تھیلی میں احتیاط سے رکھیں۔ آیت شریف یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ خُلُقٍ عَظِيْمٍ لَيْسَ
الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

✣

بَابُ الصَّلٰوۃ مِنَ الحَاجَات واسطے غنا و ثروت و کثرت دولت کے لئے مجرب ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ وضو کرکے دو رکعت نماز پڑھ کر قبلہ رو ہوکر یہ آیت چالیس ۴۰ مرتبہ پڑھے۔

قُلِ اللّٰھُمَّ تا بِغَیۡرِ حِسَابٍ۔ جس وقت فارغ ہو حرف میم کو کاغذ سفید پاکیزہ پر بخط صاف لکھ کر مکان طاہر میں لٹکا دے اور نظر حرف میم پر کرکے ایک مرتبہ آیت مذکورہ پڑھنے کے درمیان نظر کسی اور پر نہ کرے اور کسی سے بات نہ کرے جب چالیس روز ختم ہوں تو کثیر مال و منافع و دولت عجائب و غرائب دیکھے۔ روزانہ اسی طرح سے کرے نماز صرف ایک ہی دن کافی ہے۔

نمازِ حاجت

دیگر: غنیۃ الطالبین میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب دوشنبہ یعنی اتوار دن گذار کر جو رات آئے جس کی صبح کو پیر ہو۔ جو شخص چار رکعت نماز پڑھے اس ترکیب سے کہ پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورہ اخلاص ۱۰ بار، دوسری رکعت میں ۲۰ بار، تیسری میں ۳۰ بار، چوتھی میں ۴۰ بار اور سلام کے بعد ۷۵ بار اور اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡبٍ وَّاَتُوۡبُ اِلَیۡہِ ۷۵ بار۔ درود شریف ۷۵ بار بعد فراغت خدا سے دعا مانگے۔ بس جو مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ بزرگانِ دین نے اس نماز کا نام نمازِ حاجت رکھا ہے۔ اور نیت بھی نمازِ حاجت کا کرے۔ دوسری روایت میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پندرہ بار باقی ترکیب وہی ہے بہتر

ہے کہ تین ہفتہ تک پڑھے۔ یہ نماز بہت مجرب ہے۔

نمازِ رزق

جو کوئی تنگ دست یا قرض دار ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ نمازِ رزق پڑھا کرے وہ یہ ہے۔ دو رکعت نماز نفل قبل نماز فجر کے پڑھے۔ اوّل رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے ۱۹ بار۔ اَللّٰہُ لَطِیۡفٌۢ بِعِبَادِہٖ یَرۡزُقُ مَنۡ یَّشَآءُ ۚ وَ ہُوَ الۡقَوِیُّ الۡعَزِیۡزُ اور دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے گیارہ مرتبہ حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَ نِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ پڑھے۔ انشاء اللہ چالیس روز میں وہ برکت ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔

نمازِ قلب

استخارہ بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ اس سے قلب بھی منور ہو جاتا ہے۔ اس کا نام صلوٰۃ القلب بھی ہے۔ سوتے وقت وضو کرو لیکن کلمہ یا بسم اللہ شریف جو اکثر آدمی وضو کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ سب دل میں پڑھو۔ زبان سے کوئی حرف ادا نہ ہو۔ بعد وضو دو رکعت نماز بہ نیت صلوٰۃ القلب پڑھو۔ اوّل رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ والشمس سات مرتبہ دوسری میں سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر سلام دو دعا کرو کہ الٰہی فلاں معاملے میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے اس پر مطلع فرمائیں۔ لیکن یہ سب پڑھنا دل ہی دل میں ہو زبان سے ایک حرف بھی ادا نہ ہو۔ خدا چاہے تو پہلی رات میں ہی سب حال روشن ہو جائے گا۔ ورنہ دوسری تیسری رات میں انشاء اللہ ضرور عیاں ہوگا۔ اگر اس نماز کو ہمیشہ دل ہی دل میں پڑھا کرے تو اکیس ۲۱ روز میں مقام اولیا دیکھے۔ اور قلب منور ہوگا۔ ہر شے

اس میں نظر آئے گی۔

◆

صلوٰۃ الشفا:- چار رکعت نماز نفل ادا کریں اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام دعا مانگیں۔ انشاء اللہ جس مریض کے لئے دعا مانگیں اللہ اس کو صحت و شفا عطا کرے گا۔

◆

نمازِ اسرار:- بعد نماز مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت نفل نمازِ اسرار واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھے ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے۔ انشاء اللہ چند یوم میں راز افشا ہونے لگے۔

◆

قضائے حاجت:- بروز سنیچر بعد نماز عشاء ۴ رکعت پڑھے۔ اول رکعت میں بعد فاتحہ کے بعد ۱۰ بار سورۃ اخلاص دوسری ۲۰ بار۔ تیسری میں تیس بار اور چوتھی میں چالیس بار پڑھے۔ بعد سلام ۷ بار درود شریف پڑھے۔ ۵۰ بار اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَیْہِ اور پھر ۵۰ بار اخلاص پڑھ کر دعا مانگے بہتر ہے ہر سنیچر کو پڑھے۔

◆

نمازِ کرامت:- دو رکعت نماز نفل بعد مغرب ضرور پڑھا کریں۔ ہر رکعت میں اِنَّا اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرَ ۷ بار پڑھیں انشاء اللہ ۴۰ یوم کے بعد زبان میں تاثیر ہو جائے گی۔ اور کرامت ظاہر ہونے لگے گی۔

◆

عورتوں کے لئے:- جس عورت کے ایام جاری ہوں بند نہ ہوتے ہوں اس نقش کو خون کبوتر یا خون بکری سے لکھ کر عورت کے کمر میں باندھیں ایام بند ہو جائیں گے۔

۲۷۲	۲۶۵	۲۷۰
۲۶۷	۲۶۹	۲۷۱
۲۶۸	۲۷۳	۲۶۶

◆

براے کشادہ شدن حیض لکھ کر کمر میں باندھیں نقش یہ ہے

افان مات ۵۷۳	اوقتل ۵۲۷	انقلبتم ۶۲۳	علی اعقابکم ۳۳۴
۶۲۴	۳۳۳	۵۷۴	۵۲۶
۳۳۲	۶۲۱	۵۲۹	۵۷۵
۵۲۸	۵۷۶	۳۳۱	۶۲۲

◆

اگر کسی عورت کو ہمیشہ خون جاری رہتا ہو تو اس آیت کو لکھ کر کمر میں باندھا جائے۔ اِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْھَا حَافِظٌ فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ

◆

دیگر:-

اس آیت کو لکھ کر کمر میں باندھے اِنَّ کل نفس لما عَلَیْھَا

حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء۔

◆

برائے حمل استقاط:۔ گیارہ مرتبہ ۔۔ دمزمل پڑھ کر گنڈہ بنا کر ہر مرتبہ ایک گرہ دیں گے عورت کی کمر میں باندھیں اور پانی بھی دم کرکے پلائیں۔

◆

واسطے قیام حمل:۔ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ سے اَجَلٍ مُّسَمًّى تک پارہ ۱۷ رکوع ۱۰ع میں سورۃ حج سات تار کا تاگہ کر اور پائے انگشت سے موئے پیشانی تک ناپ کر اکیس بار آیت مذکورہ کو پڑھ کر گنڈہ بنائے اور عورت کی کمر میں تا قیام حمل باندھے۔

◆

بچہ اگر پیٹ کے اندر مرجاتا ہے تو اس منتر کو لکھ کر پیٹ پر باندھیں اگر پیدا ہو کر مرجاتا ہے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ قیوس بیلوس دفیوس ساہوس انصار الموان امیور یونس ایس ایوان الواد کیلوس ۵۵۵

◆

محافظ حمل: جس عورت کو استقاط حمل کی شکایت یا بچہ فوت کر جاتا ہے ان عورتوں کے لئے یہ تیر بہدف ہے اسکا طریقہ یہ ہے کہ سینٹھے کی قلم و زعفران سے لکھ کر گلے میں پہنا دیں انشاء اللہ شکایت دور ہو جائے گی۔

◆

برائے زیادتی شیر (دودھ)

اس آیت کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر دودھ میں بلا کر کھلائیں۔

لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

◆

دیگر برائے زیادتی شیر عورت گائے بھینس بکری کی گردن میں لکھ کر لٹکادے۔

یاجبرئیل	٦	١	٨	یامیکائیل
اااطینک	٧	٥	٣	[illegible]
یااسرائیل	٢	٩	٤	یاعزرائیل

◆

برائے فرزند نرینہ: اس نقش کو لکھ کر عورت کے بائیں بازو میں باندھیں انشاءاللہ فرزند نرینہ پیدا ہوگا۔ آزمودہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰہ	الرَّحْمٰن	الرَّحِیْم
یاغفور	یاغفور	یاغفور
بِسْمِ اللّٰہ	الرَّحْمٰن	الرَّحِیْم
یاغفور	یاغفور	یاغفور

◆

برائے بستن خون جو زمانہ حمل میں آتا ہے

اس نقش کو دم الاخوین سے لکھ کر ناف کے نیچے باندھے اور ایک

سفید زیادہ مرتا ہو تو کرے۔

۷۸۶

یا قابض	یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض	یا قابض

یا قابض تقبضت بالقبض والتقبض فی
قبض تبضل۔ یا قابض کہ زیادہ اسن
بیماری می اید قبض و بند گردد

◆

بانجھ عورت کا روحانی علاج: حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے کہ اگر کسی عورت کو ولادت نہ ہوتی ہو۔ تو اس کو یہ نقش کاغذ یا پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر سات یوم تک پلائیں۔ بحکم خدا اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔

ھوہ سردمہ	صراح جمیع سرشر

◆

اگر کسی عورت کو اولاد نہ ہوتی ہو یا گائے بھینس و بکری بچہ نہ دیتی ہو تو جب قمر برج جوزا و ستحن میں ہو تو اس نقش کو باطہارت لکھ کر کر

میں باندھے

کن یا مجمل بلی

◆

دیگر:۔ حیض سے فارغ ہو کر ایک یا دو روز کے بعد ایک چھوارا لے کر تخم الگ کر دو اور نقش کو بجائے اس کے اندر رکھو اور تانت سے کچھ اوپر ایک دھاگے میں باندھ کر باندھو۔ انشاء اللہ صاحب اولاد ہوگی۔

۷۸۶

رب	لاتذرنی
فرداً	انت
خیر	الوارثین

◆

برائے خلاصی:۔ عورت کی پیشانی پر باندھے فوراً ولادت ہوگی۔

شم انزل	۹ ۱ ۴

◆

دیگر برائے درد شکم

درد گو بند درد دفع شود۔ نقش این است

۲۹۳	۲۸۶	۲۹۱
۲۸۸	۲۹۰	۲۹۲
۲۸۹	۲۹۳	۲۸۷

برائے کشادن بخت دختر :- لکھ کر بازو پر باندھے۔

۷۸۶

۴۹۷۳	۸	۱	۴۹۷۶
۲	۴۹۷۵	۴۹۷۴	۷
۴۹۷۸	۳	۶	۴۹۷۱
۵	۴۹۷۲	۴۹۷۷	۴

◆

چھوٹے بچوں کیلئے

اگر بچہ دودھ نہیں پکڑتا ہو تو یہ نقش لکھ کر بازو پر باندھے۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝ فَالَھُمۡ فِیۡھَا رَکُوۡبُھُمۡ وَفِیۡھَا یَاکُلُوۡنَ وَلَھُمۡ فِیۡھَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا تَشۡکُرُوۡنَ دنع جعجع ۝

◆

مٹی کھانے کی عادت :- روزانہ تین دفعہ پڑھ کر دم کر کے پلائیں — جب بھی دودھ پلائیں یہی دم کر کے پلائیں۔ اس طرح مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نزدم مرزج

◆

دیگر: ضدی بچوں کے لئے :- وہی ام الصبیان والا تعویذ ہوگا دیا جائے جو تحریر ہے۔ گلے میں پہنے اور پلائیں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۲۳۳	۲۲۲۷	۲۲۳۵	۲۲۲۰
۲۲۲۱	۲۲۳۳	۲۲۳۰	۲۲۳۱
۲۲۲۸	۲۲۳۲	۲۲۲۹	۲۲۲۶
۲۲۳۲	۲۲۲۲	۲۲۳۲	۲۲۲۹

◆

دیگر: بہرا گونگا ہونا :- اگر پیدائشی گونگا یا بہرا ہے تو اس کا علاج یوں کریں کہ جب گونگا یا بہرا بچہ ہو وہ بڑی گہری نیند سو جائے تو اس کے سرہانے کے رخ سیدھی جانب کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ مریم کی پہلی آیت کٓھٰیٰعٓصٓ پڑھیں۔ پڑھنے میں ہر حرف الگ الگ پڑھ جائے۔ یہ عمل چھ ماہ برابر جاری رکھیں۔ کوشش یہ ہو کہ ناغہ نہ ہونے پائے۔ انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا۔

◆

دیگر: سوکھے کے مرض میں لڑکوں کو روغن تلخ پر اخلاص تین بار پڑھ کر کے تمام جسم پر صبح و شام مالش کریں۔

◆

دیگر: جو بچہ کمزور ہو یہ نقش زعفران سے لکھ کر چاندی کے تعویز میں رکھ کر

بچے کے گلے میں ڈالدے بحکم خدا توانا ہوگا تجربہ شدہ ہے۔

۹۷	۱۰۴	۹۹
۱۰۲	۱۰۰	۹۸
۱۰۱	۹۶	۱۰۳

◆

برائے دفع گریہ کودک و درد شکم در گلوئے طفل بندد

۷۸۶

۱۱	۲	۱۶	۵
۸	۱۳	۳	۱۰
۱	۱۲	۶	۱۵
۱۴	۷	۹	۴

◆

دیگر: مسان یا سوکھا کے مرض کے لئے اگر کسی بچہ کو ہوجائے تو شنبہ دوشنبہ کو یہ عمل کرے۔ ایک کاغذ کے پرزے پر یہ نام لکھیں۔ نمرود، فرعون، قارون، ہامان، شداد، ابلیس۔ چلنی کے نیچے رکھ کر اس چلنی پر بچہ کو بٹھا کر نہلاؤ۔ وقت طلوع آفتاب سے ایک گھنٹہ تک ہے یہ ترکیب چار سنیچر اور چار منگل تک کرنا ہوگا۔ اور ہر مرتبہ نیا نام لکھنا ہوگا۔ جب بچہ کو نہلا چکیں تو ان ناموں کو چلنی کے نیچے سے نکال کر ۶ جوتیاں مار کر کسی پلید جگہ میں پائخانہ میں گاڑ دیا کریں۔

دیگر:- اتوار کے دن یہ نقش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔

۲۴۶	۷۸۶		۱۱۱
یا سلام	یا مومن	یا حفیظ	یا نور
۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

◆

برائے چیچک:- اس نقش کو لکھ کر باطہارت زعفران و عرق گلاب سے لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دے۔ صحت ہوجانے پر حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے نام سے فاتحہ دلائے۔

۷۸۶

۱۰	۵	۱۳	۱۵
۳	۱۶	۹	۶
۱۴	۲	۷	۱۲
۸	۱۱	۴	۱

◆

دیگر:-

سورۃ فاتحہ کا نقش لکھ گلے میں ڈالے انشاء اللہ بچہ چیچک سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر نکلی بھی تو کم

یہ مجرب نقش آئندہ صفحہ میں ہے۔

۷۸۶

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
مَالِكِ	يَوْمِ الدِّيْنِ	اِيَّاكَ نَعْبُدُ	وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
اِهْدِنَا	الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ	صِرَاطَ الَّذِيْنَ	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ	عَلَيْهِمْ	وَلَا الضَّآلِّيْنَ	آمين

◆

نظر بد اتارنے کے لئے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھ کر بچے کے منہ پر پھونک دیں۔ نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے۔

◆

کسی بچے کو کانچ نکلتی ہو یا مقعد میں خارش ہو تو اس نقش کو لکھ کر ناف پر باندھے۔ بحکم خدا شفا ہو۔

۷۸۶۷۸۶

۲۶۵	۲۵۸	۲۶۳
۲۶۰	۲۶۲	۲۶۴
۲۶۱	۲۶۶	۲۵۹

گذارش:- عامل حضرات یا جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں ان سے گذارش ہے کہ ادارہ اعجاز بکڈپو کے فروغ و ترقی کیلئے دعا کریں۔ تاکہ اس طرح کی دوسری اشاعت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاسکے۔ مشاہد حسین قادری

زہر اتارنے کے لئے

اگر کسی کو کیڑے یا کتے نے کاٹا ہو تو آٹا کا ایک غولہ بنا کر اس پر گیارہ بار یہ آیت شریف پڑھ کر دم کرے۔

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ

تَارَةً اُخْرٰى

اور غولہ کو چند منٹ کاٹے ہوئے جگہ پر ملیں تین روز متواتر کریں بحکم خدا صحت ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو۔

◆

برائے سنہرے بچھو:- تھوڑی دوب گھاس اور تھوڑا سا کھانے کا نمک لے کر دونوں کو ملا کر ہتھیلی پر ملا کر چٹکی سے پکڑ کر زور سے نیچے کی طرف جہاں بچھو نے ڈنک مارا ہے لا دے چند ہی بار میں کل زہر اتر کر زائل ہو جائے گا۔ آزمودہ ہے۔

◆

جب پپیہا "پی کہاں پی کہاں" کی رٹ لگائے عامل کو چاہئے کہ وہ بھی سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے جب تک وہ بولتا رہے یہ بھی پڑھتا رہے۔ بس بچھو کے ڈنک مارے ہوئے پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرے زہر اتر جائے گا۔

◆

تریاق کے لئے:- الحمد شریف ۲۱ بار پڑھ کر دم کریں۔

نیم کی ٹہنی سے جھاڑیں۔ ایک سفید پیازے کر الحمد شریف ۲۱ بار پڑھ کر دم کرکے گلے میں ڈال دیں۔ تین دن متواتر کرنے کے بعد شفا ہوگی۔ گا جس قدر پوسیں سفید ہوگا۔

◆

عمل سانپ جھاڑنے کا :- محرم کی چاند رات سے شروع کریں بعد نماز عشاء ۸۸ بار اوّل وآخر درود شریف ۷، ۷ بار روزانہ ۹ تاریخ شب عاشورہ تک پڑھیں بعد عمل کے روزانہ مداومت کے ساتھ بطورِ وظیفہ ۱۱ بار عشاء یا کسی ایک وقت پڑھ کر ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کرلیں۔ عمل شریف ایں است۔ وَمَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ رَمٰی وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْہُ بَلَاءً حَسَنًا۔ جس وقت اطلاع آوے تین بار پڑھ کر لانے والے کو ایک طمانچہ مار کر واپس کریں۔ مار گزیدہ کا نام لکھ کر اس پر تین بار پڑھ کرکے پلادیں یا خط وتار آوے تو اس پر بھی دم کرکے جلادیں۔ انشاء اللہ شفا ہوگا۔

◆

دیگر :- محرم کی چاند رات سے دسویں شب تک بعد نماز عشاء اگربتی جلا کر ۸۸ بار یہ دعا پڑھیں زکوٰۃ ادا ہوجائے گی۔ دعا یہ ہے۔

وَمَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ
رَمٰی وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْہُ بَلَاءً حَسَنًا ط

پڑھ کر داہنی ہتھیلی پر دم کرلیا کریں۔ پانی پر سات مرتبہ دم کرکے مریض کو پلائیں اور ہتھیلی پر دم کرکے ماریں ٹھیک ہوجائے گا۔ دوسرے یہ کہ

مریض اگر باہر ہو تو اس کے کان میں کہہ دیں کہ فلاں کو خط یا تار دے رہے ہیں۔ زہر رک جائے گا۔ جس وقت خط یا تار آئے تو اسی پر سات مرتبہ دم کرکے آگ میں ڈال دیں۔ مریض اچھا ہوگا۔

◆

شفا (امراض کے لئے)

درودِ شفا :- اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبِعَدَدِ کُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَّبِعَدَدِ کُلِّ عِلَّۃٍ وَّشِفَاءٍ

◆

یہ وظیفہ ۹۹ امراض کا علاج ہے۔ خاص کر رنج وغم کا عطیہ جناب محترمی زکی اشرف صاحب مدظلہٗ

ترکیب :- صبح میں روزانہ ۹۹ بار اوّل وآخر درود شریف پڑھ کر بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰہِ اِلَّا اِلَیْہِ ط

◆

پیٹ میں کیڑا یا کدو دانہ

اِنَّآ اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرَ پوری سورۃ تین بار پڑھ کر پانی پر دم کرکے نہار منہ پلائیں۔ اور دن میں کسی وقت وقفہ وقفہ اسی سورہ کو پڑھ کر پیٹ میں دم کردیں۔ (متواتر ۱۱ دن کریں۔) انشاء اللہ پیٹ کے کیڑے یا کدو دانے ختم ہوجائیں گے۔

برائے دفع کالی کھانسی

چینی کی طشتری پر زعفران کو لکھ کر صبح وشام گیارہ روز تک پلائیں۔ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ یاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ

تص تص تص

مانفات الماع

◆

برائے روشنی چشم :- تین مرتبہ ہر نماز بعد انگلی پر دم کرکے آنکھ پر سلائی کرلیا کریں۔

فَكَشَفۡنَا عَنۡكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الۡيَوۡمَ حَدِيۡدٌ

◆

جس شخص کو ضعف بصارت ہو یا اس کی آنکھ میں کوئی بیماری ہو تو ہر ماہ میں پہلی یا دوسری، تیسری رات کو چاند دیکھے اور چاند نظر آنے پر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی دونوں آنکھوں پر پھیرتا جائے اور اول سورہ فاتحہ کو مع بسم اللہ و آمین کے دس مرتبہ پڑھے۔ پھر سورۃ اخلاص مع بسم اللہ کے تین بار پڑھے پھر سات دفعہ یہ کلمات کہے ـــ شِفَاءٌ مِّنۡ كُلِّ دَاءٍ بِرَحۡمَتِكَ یا ارحم الرّاحمین ـــ انشاء اللہ اس کو ضعف بینائی اور دیگر امراض چشم سے شفا ہوگی۔

◆

بخار کے لئے :- بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ هُوَ اللّٰهُ الۡخَالِقُ الۡبَارِئُ الۡمُصَوِّرُ لَهُ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى کاغذ پر لکھ کر

بغیر موم جامہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈالیں بخار اترنے پر تعویذ و کپڑا دفن کردیں۔

◆

باری کے بخار میں يَا نَارُ كُوۡنِىۡ بَرۡدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبۡرٰهِيۡمَ پیر کی لکڑی یا موی کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈال دیں جب نجات مل جائے تو اتار کر دفن کردیں۔

◆

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ پانی پر دم کرکے مریض کو پلائے تو اس کا مرض (بخار) دفع ہو۔

◆

ہر قسم کے بخار کے لئے گلے میں باندھیں۔ روزانہ بخار کے درمیان عثمان ہارونی قدس سرہٗ کے نام فاتحہ دیں ـــ انشاء اللہ شفا ہوگا

۷۸۶

۲۲۵	۲۳۱	۲۳۵	۳۲۲
۲۳۶	۲۲۱	۲۲۶	۲۳۰
۲۳۰	۲۳۳	۲۳۳	۲۲۷
۲۳۲	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۴

برائے دفع تپ دلرزہ :- اول روز بائیں ہاتھ کے گٹے پر باندھیں دوسرے روز کھول کر داہنے ہاتھ کے گٹے پر باندھیں اسی وقت جسم

پہلے روز باندھا تھا۔ تیسرے روز گلے میں باندھے۔ مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۳	۳۶	۳۲	۳۰
۳۳	۲۹	۲۳	۳۵
۳۸	۳۱	۳۸	۳۵
۳۷	۲۶	۲۷	۳۲

◆

زرد رنگ کے ریشمی کپڑے پر پانچ دفعہ سرخ رنگ کے ریشمی ڈورے سے لفظ الصمد کاڑھا جائے اور وہ کپڑا کسی دق کے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اگر بیماری تیسرے درجے تک نہیں پہونچی ہے تو مرض یقیناً جاتا رہے گا۔ مگر یہ عمل وہی شخص کر سکتا ہے۔ جس نے سوالاکھ خواندگی کی زکواۃ دی ہے۔

◆

میعادی ٹائیفائد یا موتی جھرہ بخار میں

زرد کے رنگ میں رکابی بنا کر اس نقش کو پلیٹ پر لکھ دیں۔ دھوکر ہر چار گھنٹے پر ایک چمچہ پلائیں اسی طرح تین دن تک لکھیں اور پلائیں۔ شفا ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَاحفیظ یاحفیظ یاحفیظ
یا شافیُ یا شافیُ یا شافیُ
سبوحا سبوحٌ قدوس

◆

پسلی چلنا یا نمونیہ:۔ چینی کی طشتری پر زعفران سے لکھ کر ایک یا دو گھونٹ دودھ سے دھو کر تین وقت پلائیں احتیاطاً تین دن

تک پلائیں تاکہ نمونیہ کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَاحفیظ یَاحفیظ یَاحفیظ
یَا فَتَّاحُ یَا مُهَیْمِنُ یَا عَزِیْزُ
یَاشَافِیْ یَاشَافِیْ یَاشَافِیْ
یَاالْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

◆

کان کا درد:۔ سورہ فلق تین مرتبہ پڑھ کر پانی یا دودھ میں دم کر کے پلائیں۔ شفا ہوگا

◆

اگر کان میں کوئی حرج ہو یا کم سنتا ہو تو بادام کے تیل پر یا اور کسی چیز کے تیل پر اول و آخر ۳-۳ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانچ مرتبہ یَاسَمِیْعُ پڑھ کر دم کر کے کان میں ڈالا کریں

◆

ہر طرح کے درد:۔ گٹھیا ہو یا کسی بھی قسم کے درد کا بہترین علاج ہے۔ سات عدد نمک کنکری یا سات چٹکی اگر پسا ہے تو لے کر ہر کنکری پر اکیس بار پڑھ کر تیل میں ملا کر درد کی جگہ مالش کریں۔ دعا یہ ہے:

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاکِنًا

اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھیں انشاء اللہ صحت ہوگی۔ تیل کسی بھی قسم کا ہو۔ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْبَاسِطُ وَاَنَا الْمَبْسُوْطُ اِلَّا

الباسط یا اللہ یا اللہ۔ تیل مالش کرنے کے بعد تعویذ کو درد کی جگہ باندھ دیں۔

وطل	موطیل
موطیل	وطل

⁂

درد کی جگہ کو پکڑ کر یا انگلی رکھ کر ۱۰۰ بار یا ۷ بار وَاِذَا بَطَشْتُمْ دم کردیں۔ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف۔

⁂

سر، کمر، ھاتھ پاؤں اور پیٹ کا درد:۔ اس آیت پاک کو تین سو اکیاسی ۳۸۱ مرتبہ نمک یا پانی پر دم کرکے اول و آخر درود شریف ۱۲ بارہ مرتبہ پڑھیں درد کی جگہ مالش کریں نمک پانی تیل اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ عمل ہر جگہ کے درد کے لئے مفید ہے اکسیر ہے جس عضو کو جس چیز سے مناسبت ہو عمل میں لائیں آیت یہ ہے۔

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاکِنًا

⁂

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ ہر قسم کے درد کے واسطے مفید ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کردی جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ چاند کی پندرہ تاریخ سے ۲۹ تاریخ تک روزانہ ۷۱ بار بغیر بسم اللہ پڑھا کریں اور روزانہ پانی کا پیالہ اپنے سامنے رکھ لیں بعد ختم اس پانی کو پی جایا کریں مگر شرط یہ ہے روزانہ ایک گھونٹ پانی کم رکھا کریں بعدہٗ مذکورہ سورۃ تین مرتبہ بغیر بسم اللہ پڑھ کر دم کرو درد دفع ہوگا۔

اگر کسی عضو میں درد ہو تو اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس دعا کو پڑھے ان شاء اللہ شفا ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ
اللّٰهِ قُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ اَجِدُ اُحَاذِرُ

دردِ سر

جس کسی کے سر میں درد ہو یا شقیقہ ہو تو اس نقش کو طلوعِ آفتاب سے قبل لکھ کر سر میں باندھے ان شاء اللہ درد دفع ہو۔

یا شافی	تبت یدا ادتبت	
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح

درد سر اور جسمانی درد کے لئے مجرب ہے۔

برائے درد نیم سر:۔

اللہ د	اللہ ۲	اللہ ۷۶
اللہ ۲	اللہ سحح	اللہ ۷
اللہ دم	اللہ ۲	اللہ ۲

۲	۶
۴	۸

درد سر خواہ کسی بھی سبب سے ہو اس نقش کے باندھنے سے دفع ہوگا۔ اور تین روز اس نقش کو دھو کر پلائیں

۷۸۶

اللہ	اللہ	اللہ	و
محمد	محمد	محمد	و
علی	علی	علی	و

درد سر کے لئے سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے۔ دفع ہو۔

◆

دیگر:— دس مرتبہ پڑھ کر پیشانی میں پھونکے۔ اول وآخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے — بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ یا شافی یا کافی بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ یا معیط یا واسع بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ یا حی یا دائم

◆

شفائے مریض و دفع نقاہت وکمزوری اس آیت شریف کو مشک وعنبر سے لکھ کر تکیہ میں نیچے رکھ دیں۔ شفا ہوگی آیت یہ ہے۔

اِنَّا نَحۡنُ نُحۡیِ الۡمَوۡتٰی وَنَکۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا وَاٰثَارَہُمۡ
وَکُلَّ شَیۡءٍ اَحۡصَیۡنٰہُ فِیۡۤ اِمَامٍ مُّبِیۡنٍ ؕ

◆

نیلے سوت کے اکیس ۲۱ تارے کر گنڈہ بنا کر سورہ الحمد ایک دفعہ پڑھ کر اس میں نو گرہ لگائیں۔ اور بیمار کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ صحت ہوگی مفید ہے۔ اس نقش کو گلے میں ڈالیں۔

۷۸۶

۱	۳۶۷۸	۳۶۷۳	۸
۳۶۷۵	۷	۲	۳۶۷۷
۶	۳۶۷۲	۳۶۸۰	۳
۳۶۷۹	۴	۵	۳۶۷۳

دِل کی گھبراہٹ کے لئے :

— یہ تعویذ گلے میں پہنے۔ مگر تعویذ قلب پر رہے۔ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُہُمۡ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰہِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ

◆

عنایت کردہ حضرت مولوی عبد القدیر جلال پوری صاحب
اختلاج قلب و وحشت و گھبراہٹ لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں پہنیں زعفران سے لکھیں گے۔



وَاِذَا مَرِضۡتُ فَہُوَ یَشۡفِیۡنِ

◆

دل کی گھبراہٹ کے واسطے۔ دو تعویذ لکھیں۔ ایک پانی میں گھول کر پلائیں اور ایک گلے میں پہنا دیں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۸۱۳	۲۸۲۷	۲۸۲۳	۲۸۲۱
۲۸۲۵	۲۸۲۰	۲۸۱۵	۲۸۲۶
۲۸۱۹	۲۸۲۲	۲۸۲۹	۲۸۱۶
۲۸۲۸	۲۸۱۷	۲۸۱۸	۲۸۲۲

برائے ہول دل وحشت دیوانگی وجنون مراق وغیرہ گلے میں باندھے اور دھو کر پیجئے۔

۷۸۶

۲۶۷	۲۸۱	۲۷۸	۲۷۴
۲۷۹	۲۷۳	۲۶۸	۲۸۰
۲۷۲	۲۷۶	۲۸۳	۲۶۹
۲۸۲	۲۷۰	۲۷۱	۲۷۷

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

⁂

برائے ہیجانی وہول دل وتپش قلب و وحشت و متلی وجمیع امراض جسمانی:- بسم اللہ الرحمن الرحیم پس خوردہ امیر المومنین علی شیر خدا داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوردم خوردم خوردم۔ زعفران سے لکھ کر پئے شفا ہو۔

⁂

برائے دفع درد پیٹ قبض پیشاب بند ہو اس نقش کو لکھ کر بائیں ران میں باندھے۔ درد زہ میں بھی باندھے۔ مفید ہے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ح ۸	ا ۱	و ۶
ج ۳	ہ ۵	ز ۷
د ۴	ط ۹	ب ۲

اگر کسی کا ناف ٹل گیا ہو تو باوضو اس نقش کو لکھ کر ناف پر باندھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
یا بدوح ظُلْمنۂ جمنہ
یا بدوح ظلمنۂ جمنہ
یا بدوح ظلمنۂ جمنہ

⁂

ناف ٹل گئی ہو تو یہ نقش لکھ کر کمر میں باندھیں انشاء اللہ اپنی جگہ پر آجائیگی

ا	ب	ح	د
ر	د	ا	ی
د	در	ص	۴

⁂

پیٹ کا درد:— در گو نیز درد دفع شود نقش این است

۲۹۳	۲۸۶	۲۹۱
۲۸۸	۲۹۰	۲۹۲
۲۸۹	۲۹۳	۲۸۷

⁂

برائے پیچش

نیک ساعت میں مشک و زعفران و گلاب کے سیاہی سے انار کی لکڑی کا قلم بنا کر قبلہ رو ہو کر دس نقش لکھ کر ایک مریض کے کمر میں باندھے باقی تین روز صبح دوپہر شام کو پلائے۔ نقش آئندہ صفحہ میں ہے۔

۷۸۶

۱	یا احد	۶	یا واحد
۸	۷	ھ	یا علی
۴	۱	۱۱	۱۰
۲	۵	یا بجد	بسم اللہ

◆

اس تعویذ کو لکھ کر کمر میں باندھے مجرب ہے۔

۷۸۶

ار	دم شا	سہادہ اللہ
۲ و	۸ ح	۱۰ ح
۷ ب	۸ ب	ع ب

قوتِ ہاضمہ

جس کی قوت ہاضمہ کمزور ہو۔ غذا ہضم نہ ہوتی ہو۔ یا بھوک نہ لگتی ہو یا پیٹ میں درد رہتا ہو غرض یہ کہ پیٹ میں کوئی بیماری ہو یہ نقش جمعرات جمعہ یا اتوار کو لکھ کر موم جامہ کرکے کمر میں باندھیں کہ ہر طرف گھومے بعد کھانے کے ناف پر کم از کم ایک گھنٹہ ضرور رکھے۔ انشاء اللہ صحت ہو۔ (زعفران سے لکھے)

۷۸۶

	ق	ق	ق	ق	
لد	۱۰۶	۱۱۹	۱۱۶	۱۱۳	م
لد	۱۱۷	۱۱۲	۱۰۷	۱۱۸	م
لد	۱۱۱	۱۱۳	۱۲۱	۱۰۸	م
لد	۱۲۰	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۵	م
	ع	ع	ع	ع	

بواسیر خونی ہو یا بادی۔ گیہوں کی ایک ٹکیہ باوضو لگا دیں اس پر پرکالی روشنائی سے یہ نقش لکھ کر صبح نہار مت کھائیں۔ اسی طرح سات دن برابر روزانہ کرے بحکم خدا شفا ہو گی۔

۷۸۶



◆

پاخانہ جاتے وقت تین مرتبہ یہ عمل پڑھ کر جائے۔ انشاء اللہ بواسیر جاتی رہے گی۔ پاخانہ سے قبل پڑھیں۔ پاخانہ میں نہ پڑھیں۔

کرکدنی بر بروئی بیرون شو خدا بزرگ است تو بیروں شو

لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ

◆

اگر کسی کو بواسیر ہو تو کچھ پانی بعد استنجا بچائے اور اس پر یہ کلام دم کرے اور پھر استنجا لے۔ بواسیر دفع ہو

درش تو درش کون کون درش در ما کا درش نا کا درش
دنداں کا درش ہو جان کر نہ کہے درش اس کا خاندان ہو

◆

بعنایت مخلص حکیم محمد یونس صاحب ان کو حضرت مولانا بشارت کریم گڑھول دربھنگہ سے ۱۹۲۰ء میں ملا تھا۔ بواسیر ریحی خونی کے لئے مجرب ہے۔ تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پھر سات بار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔

پڑھ کر کف دست پر دم کر دے فائدہ ہوگا۔ چالیس یوم تک بلا ناغہ ایک یا دو وقت۔ (صبح کی نماز کے بعد بہتر ہے۔)

◆

بواسیر خونی وبادی :۔ اس نقش کو لکھ کر گلے میں باندھے۔

۷۸۶

یا شافع	یا شافع	یا شافع
یا شافع	یا شافع	یا شافع
یا شافع	یا شافع	یا شافع

جن لوگوں کا نام میم سے شروع ہوتا ہو اس سے روزانہ کچھ پیسے مانگیں اور جمع کریں کہ ایک چاندی کا چھلہ بنا سکیں۔ اس کے بعد بقر عید کے ایام بعینہٖ بکرے کے منہ میں ڈال کر منہ بند کر کے قربانی کریں۔ بعد قربانی اس کے منہ سے نکال کر انگلی میں پہنائیں۔ بواسیر دفع ہوگی

◆

برائے بواسیر اس تعویذ کو بروز چہار شنبہ لکھے اور اسی روز سوا سیر شیرینی ہفت خواجہ کے نام نیاز کر کے تقسیم کر دے۔ کلائی دست چپ میں موم جامہ کر کے باندھے۔ انشاء اللہ بواسیر خونی بادی دونوں دفع ہوگا



اگر پیٹ بڑھ جائے تو ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کو نیک ساعت میں باوضو خلوص دل سے اس نقش کو لکھ کر پیٹ پر باندھے۔ انشاء اللہ مکمل صحت ہوگی۔ نقش یہ ہے ←


بحق لا الٰہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ
یا شافی یا کافی

برائے طحال :۔

تیز چاقو چھری یا استرہ کی دھار پر گیارہ مرتبہ الم نشرح پڑھے اول وآخر سات سات بار درود شریف بعد ازاں اس پر استرہ کو تلی کی جگہ پر آہستہ آہستہ چند واچند خط کھینچے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۷ یوم میں صحت ہوگی

◆

دیگر :۔ کنواری لڑکی کا کاتا ہوا سوت سات لے کر اور بٹ کر اکیس تار تانت سے کریوں جھاڑے تانت کو ایک آدمی طحال پر پکڑے سوت پر خود عمل پڑھتا رہے۔ تانت کٹ جائے گا۔ چند بار کرے انشاء اللہ تعالیٰ مریض کو صحت ہوگی۔ عمل یہ ہے۔

بروٹ باگھا کاٹے باگھا بزوٹ کاٹے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

برائے تپ ولرزہ ومرگی :۔

پیپل کے پتہ پر لکھ کر دن میں تین مرتبہ تپ کے مریض کو چٹائیں۔ انشاء اللہ ایک روز میں دفع ہوگی اور مرگی

داوں کو سفید مرغ کے خون سے پیپل کے پتہ پر لکھ کر مریض کے سر میں باندھیں انشاءاللہ صحت ہو۔ مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔



◆

برائے دفع چیچک

مندرجہ ذیل نقش کو تحریر کرکے چیچک نکلنے سے پہلے اس تعویذ کو گلے میں ڈالیں گے تو چیچک نہیں نکلے گی۔ اور اگر نکلی بھی تو بہت کم۔ مجرب و مفید ہے۔

۷۸۶

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ	عَلَیْہِمْ	صِرَاطَ الَّذِیْنَ	وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ
اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ	اِیَّاکَ نَعْبُدُ	رَبِّ الْعَالَمِیْنَ	غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ
یَوْمِ الدِّیْنِ	اِھْدِنَا	اٰمِیْن یَا اللہ	الرَّحْمٰنِ
وَلَا الضَّآلِّیْنَ	الرَّحِیْمِ	مٰلِکِ	الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

◆

نظر بد اور دیگر تمام بیماریوں کے واسطے سورۃ فاتحہ کا یہ نقش تعویذ بنا کر بازو میں باندھیں یا گلے میں ڈالیں۔ نقش آئندہ صفحہ میں ہے۔

۷۸۶

بِسْمِ اللّٰہِ	بِسْمِ اللّٰہِ	الرَّحْمٰنِ	اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ	رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	مٰلِکِ	یَوْمِ الدِّیْنِ	اِیَّاکَ نَعْبُدُ	وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ
اِھْدِنَا صِرَاطَ	الْمُسْتَقِیْمَ	صِرَاطَ الَّذِیْنَ	اَنْعَمْتَ	عَلَیْہِمْ
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ	عَلَیْہِمْ	وَلَا	الضَّآلِّیْنَ	اٰمِیْن

◆

برائے دفع خارش (کھجلی)

سورہ والسماء والطارق ہفت بار، اول و آخر درود شریف سہ بار بروغن کنجد (تیل) خواندہ صبح و شام مالش کریں۔

◆

برائے دفع بندی پیشاب

اس نقش کو لکھ کر باندھ دیں۔ پیشاب جاری ہوگا۔ مریض خواہ آدمی ہو یا جانور۔ انشاءاللہ تعالیٰ

۲۱	ب	دعوے
درھم	ح	۸
کفا	۳	۸

◆

دیگر: اگر پیشاب بند ہو تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ پیشاب بند ہے تو اس ترکیب کو مزدور کرے

ورنہ اثر جاتا رہے گا۔ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر لکھے عَطَسَتْ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر لکھے عَطَسَتْ داہنے پیر پر عَطَسَ بائیں پیر پر عَطَبُوْ روشنائی سے لکھے، پیشاب ہونے پر فوراً مٹادے ورنہ بار بار پیشاب ہوتا رہے گا۔

برائے سیلان منی

اس دعا کو سات مرتبہ خالص شہد یا شربت یا پانی پر دم کرکے صبح وشام پیے انشاء اللہ صحت یاب ہوگا دعا یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِیْنَ وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ۔

برائے حصول غنا :

جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد ستّر دفعہ پڑھے۔ پھر ہر روز سو دفعہ پڑھا کرے۔ اس کے پڑھنے سے کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور اس کا قرض ادا ہوجائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک غنی ہوجائے گا۔

اَللّٰهُمَّ یَا غَنِیُّ یَا مُبْدِئُ یَا مُعِیْدُ یَا رَحِیْمُ
یَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِیْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِیَتِكَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ

سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝

برائے رجعت

اگر کوئی شخص جلالی کی وجہ سے دیوانہ ہوگیا ہو تو تین روز تک بعد نماز صبح گیارہ گیارہ بار دعائے قنوت اور درمیان میں ایک سو ایک بار درود شریف پڑھ کر دونوں کانوں میں دم کر دیں تین یا سات یا گیارہ روز تک انشاء اللہ شفا ہوگی۔

شراب چھوڑنے کے لئے

یہ کلمہ لکھ کر شراب کے مٹکے میں ڈال دیں

الٰہی بحق خطیب شہر گنجہ شراب نوشی ترک شود العجل العجل العجل

سحر یا جادو کا اثر باطل کرنے کے لئے

پاک وصاف مٹی کا ایک گول بنا کر اس پر دعائے سیفی سات بار پڑھ کر آگ میں ڈال دیں جب سرخ ہوجائے صبح وشام تین غوطہ دے کر آسیب زدہ کو پلائیں انشاء اللہ تین روز میں اثر جاتا رہے گا۔

دعائے سیفی یہ ہے

آیۃ الکرسی دل قرآن آپ چلے تو رحمان حلقہ حلقہ سات آسمان سات گلی ایک دربان پاؤں رکھے جبرئیل کرم کرے رحمٰن وجود موجود بارگاہ

رسول اللہ چلہ کرے۔ چلہ وہ نہ کرے جادو کرے سو مرے۔

بری عادت چھڑانے کے لئے

شراب یا قمار بازی یا کسی کی محبت کی مجبور ہو اور کسی قسم کی خراب عادت ہو یا کسی دوسرے شخص کی عادت چھڑانا ہو تو روزانہ پلا دیا کریں۔ اسماء حسنی یہ ہیں۔

یَا عَلِیْمُ یَا کَرِیْمُ یَا حَبِیْبُ یَا رَقِیْبُ یَا وَاسِعُ
یَا حَفِیْظُ یَا رَشِیْدُ یَا رَقِیْبُ یَا رَفِیْقُ

(نوٹ:- جدائی میں بھی کام دیتا ہے)

◆

اگر کوئی شخص وطن سے دور غربت میں پڑا ہو اور وطن کے لئے تڑپتا ہو اور کوئی سامان وطن جانے کا نہ ہو تو صبح کی نماز کے بعد ۹۹ مرتبہ اَللّٰھُمَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ ، پڑھا کرے خدا چاہے تو وطن جائے گا۔ غیب سے بندوبست ہوگا کم از کم ۲۲ روز عمل کرے تبدیلی ملازمت کے لئے بھی یہ عمل بہتر ہے۔

زیارت بزرگان دین

جس مزار پر پڑھے روح مبارک صاحب مزار کی خواب میں باتیں کرے ـــــ وَاَنَّ اللّٰہَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ ؕ تین یا پانچ یوم تک پڑھے۔

درود شریف کی برکت سے کل بزرگوں اور سرکار مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس اقدس میں رسائی ہوتی ہے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْاَعْلٰی صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ الْعُلٰی وَالْعُرُوْجِ وَرَاءِ الْمُنْتَھٰی وَرُؤْیَةِ جَمَالِكَ الْمُجَلّٰی فِی الْمَحَلِّ الْاَدْنٰی وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَالْاَنْبِیَاءِ وَالْاَوْلِیَاءِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ جَمِیْعًا ؕ ۳۳ مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھا کریں۔

چندری یا زہر باد کا مریض کے لئے

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ وَامْتَازُوا الْیَوْمَ
اَیُّھَا الْمُجْرِمُوْنَ ؕ

مندرجہ بالا آیت پڑھ کر ایک گرہ لگائیں۔ اسی طرح گیارہ گرہ لگائیں۔ کل ننانوے مرتبہ پڑھا ہوا۔ دھاگہ سفید کے نو تار لیں اور مریض کی گردن میں ڈالیں۔

کشف القبور

جب کسی بزرگ کے مزار پر جاؤ تو قبلہ کی طرف پشت کرکے اس طرح بیٹھو کہ صاحب مزار کے سینے کے سامنے ہو پھر سات بار درود شریف پڑھو اور ایک مرتبہ الحمد شریف۔ سات مرتبہ اَلْھٰكُمُ التَّكَاثُرُ پڑھ کر سو مرتبہ اِنَّا لِلّٰهِ

وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ، اور سات مرتبہ درود شریف پڑھ کر اطمینان و سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ اس قبر کے حالات کی واقفیت ہوگی۔ اور اگر کوئی ولی اللہ ہے تو اس سے فیض پہونچے گا۔ اور اگر کوئی چالیس روز یہ عمل کرے تو قبرستان میں اس کو کشف قبور ہو جائے گا۔ اور وہ ہر ایک دفن ہونے والے کے حالات سے واقف ہو جائے گا۔

❖

اگر جانوروں میں وبا بڑھ جائے تو تعویذ لکھنے کے وقت سوا روپیہ کی شیرینی بہ نیت فاتحہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ دیں اور کلام لکھیں اور چارپایوں کے گردن میں باندھیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَالسُّلْطَانَ اللہ ابہجا مصفیا یا کتا یا بسط پشا یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم یا قادر یا حلیم یا رارا نعد بری خد یعلا من جمیع الافواش ، جاموش البقر والشاۃ بحق محمد وآلہٖ اجمعین ،

یہ نقش جانوروں کے احاطے کے دروازے پر لگائیں پھر ایک دوسرا نقش لکھا جائے جو مویشی کے پانی پینے کے حوض میں گھول دیں جہاں مویشی پانی پیتے ہوں۔ وہ نقش یہ ہے

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، بِسْمِ اللّٰہِ یَا اللّٰہُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ، بِسْمِ اللّٰہِ شَافِی بِسْمِ اللّٰہِ مَعَافِی بِسْمِ اللّٰہِ تَوَکَّلْنَا عَلَی اللّٰہِ بِسْمِ اللّٰہِ مَا شَاءَ اللّٰہُ

کَانَ وَلَمْ یَشَاءْ وَلَمْ یَکُنْ وَاِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ

❖

تہجد کے وقت نفلوں کے بعد ایک سو سترہ مرتبہ الٓمٓ بآواز بلند پڑھا جائے مگر ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ زبان سے ادا کرنا چاہیے جب الف کہے تو دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اپنے سینہ کے دائیں رخ پر رکھے اور جب لام کہے تو وہی انگلی اپنے سینہ کے بائیں طرف دل کے اوپر رکھے اور جب میم کہے تو وہی انگلی زور سے آنکھ بند کر کے اپنے ماتھے پر رکھے، اگر یہ عمل چالیس روز تک بغیر ناغہ کئے پورا کرے تو ظاہری و باطنی بہت سے فائدے ہوں گے۔ خصوصاً اس کے دل میں محب اللہ و حب الرسول پیدا ہوگی۔ اور چالیس دن کے بعد وہ جب کسی بیمار کو دم کرنا چاہے تو انگلی کے اشارے سے آہستہ آہستہ جس کو کوئی دوسرا نہ سن سکے سات مرتبہ الٓمٓ پڑھ کر دم کر دے خدا چاہے فائدہ ہو۔

❖

رجعت سے محفوظ رہنے کا عمل

جو شخص کسی عمل کے وقت اس سورہ کو پڑھے تو وہ اس عمل کی رجعت سے محفوظ رہے گا —— بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّھَا وَحُقَّتْ ، وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ، وَاَلْقَتْ مَا فِیْھَا وَتَخَلَّتْ ،

زیارت حضرت خضر علیہ السّلام

بوقت شب پہر گذشتہ بر کنارے دریا رواں برود ریا سورۃ والضحیٰ ہفت صد بطہارت تمام بخواند۔ حضرت خضر علیہ السّلام را بہ بی نوا ہرچہ خواہد بظہور آید۔

◆

آب حیات

نیم جان مردہ سے گفتگو کرنا ہو تو ایک سفید پرچہ پر زعفران عرق گلاب کی روشنائی سے یا اسم جلی قلم سے لکھیں یَاقَوِیُّ پھر اس کو آب زم زم سے دھوئیں (آب زم زم نہ ہونے پر عرق گلاب سے دھوئیں۔) پھر ایک ہزار مرتبہ اسم مذکور پڑھ کر دم کر دیں اور یاحی یاقیوم یامحی الموتیٰ فلاں مردہ زندہ شود۔ ہر مرتبہ کہیں۔ نیم جان مردہ جس کی زبان بند ہوگئی ہے اور جاں بلب ہے انشاء اللہ کچھ عرصہ کے لئے ہوش میں آجائے گا اور باتیں کریگا۔

◆

برائے دفع چوہا:۔ (کھیت و مکاں کے واسطے۔)

بایہ کرد شتہ ہر چہار گوشت دفن کنندہ۔ نقش ایں است۔

۷۸۶

۴	حد	ع	ب
	د	۲۲	۵
۱	الله	۱	س
اہ	ر	ح	صلہ

اسّی سال کے گناہ معاف

درود شریف غنیۃ الطالبین و قوت القلوب

میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذیل درود شریف بعد نماز عصر جمعہ کے دن قبل اسکے کہ اپنی جگہ سے اُٹھے۔ پڑھے تو اسی سال کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسکی برکت سے بخش دیتا ہے۔ ۸۰ مرتبہ پڑھے۔ حضرت شیخ کی اجازت سے لکھے ہوئے ہوں۔ درود شریف یہ ہے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا

◆

بروز جمعہ کسی وقت اسّی مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اسّی سال کی گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ درود شریف یہ ہے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ الْاُمِّيِّ

◆

برائے حصار

انگشت شہادت کے اشارے سر کے اوپر کریں اور پڑھتے رہیں۔ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف درمیان تین دفعہ یہ دعا پڑھیں صبح و شام یا بوقت خواب یاحافظ یاحفیظ یاناصر یابصیر یاقادر یاقدیر دردِ لِم اللہ پیش من محمد مصطفیٰ پشت من علی لام کے سر یم کے تلوار ننانوے سوار ہمارے رکھوالے۔

دیگر: لاالٰہ کا کوٹ اِلّا اللہ کی کھائی حضرت علی کی چوکی پیغمبر صاحب کی دھائی اوّل و آخر درود شریف تین تین دفعہ درمیان میں حصار کی دعا تین دفعہ پڑھیں گے۔

◆

عطیہ محمد زکی اشرف صاحب مدظلہٗ: اوّل و آخر درود شریف تین یا پانچ بار درمیان میں سات مرتبہ دعا پڑھیں

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ بعد نماز مغرب صبح و بعد مغرب روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ....، ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔

◆

۳۱۲ بار ہر روز پڑھ کر دعا مانگے انشاء اللہ دعا مقبول ہوگی۔ بعد نماز عشاء بہتر ہے جب تک دعا قبول نہ ہو پڑھتے جائیں۔ دعا یہ ہے۔

"اللہ کی قدرت فقیر کی دعا نبی کی شفاعت"

◆

برائے کشف

۳۱۲ بار کم از کم دن میں دو بار ضرور پڑھے۔ کشف کے لئے مجرب ہے۔ دعا یہ ہے۔ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ

برائے دافع بلیات جن و آسیب وغیرہا

نقش چہل کاف مثلث آسیب زدہ کے گلے میں پہنائیں۔

۷۸۶

۳۳۵۰	۳۳۴۵	۳۳۵۲
۳۳۵۱	۳۳۴۹	۳۳۴۷
۳۳۴۶	۳۳۵۳	۳۳۴۸

برائے دفع آسیب



۷۹۳	۷۸۶	۷۹۱
۷۸۸	۷۹۰	۷۹۲
۷۸۹	۷۹۴	۷۸۷

آسیب و سحر و جن وغیرہ کے مریض کے بدن کا کپڑا جو مستعمل ہو لیکر اس پر سیاہی سے لکھ کر نئی چراغ میں روغن تلخ یعنی سرسوں کا تیل ڈالکر روشن کرے۔ مریض ایک روز میں صحتیاب ہو جائے گا مگر احتیاطاً تین یا سات روز تک جلائے۔ اور مریض کا تین چار بال فلیتہ کے اندر ضرور رکھو۔

دیگر

مکان کے چاروں کونوں میں یہ آیت مبارکہ کاغذ پر لکھ کر مٹی کے برتن میں رکھکر دفن کرے۔ انشاء اللہ اس مکان سے آسیب دفع ہو۔ آیت مبارکہ یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفٰى بِاللّٰهِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنْ تَعْلُوْ عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ فَاِنَّ عَنَادِيْتَ مِنَ الْجِنِّ اَبَابِكَ اِنَّهٗ قَبْلَ اِنْ تَعْلُوْهُ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ مِنَ الْعَوَارِفِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ٥ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٥

دافع سحر:۔ کسی قسم کا سحر ہو درمیان عصر و مغرب کے بلا تسمیہ الم ترکیف پوری سورہ ۴۱ بار پانی پر دم کر کے پیئے۔ انشاء اللہ صحت ہو۔ کم از کم چالیس روز کریں۔

برائے دفع جن و آسیب:۔ جن و آسیب کے مریض کے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پر یہ نقش تحریر کریں اور تین بار سر سے پاؤں تک اتاریں اور جلا دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ سب دفع ہوں۔

۷۹۱	۷۸۶	۷۹۳
۷۹۲	۷۹۰	۷۸۸
۷۸۷	۷۹۴	۷۸۹

دیگر۔ برائے دفع ہر مرض و آسیب نوشتہ در گلو بندد و خوردن دہد در ہر معاملہ بکار آید سوا لاکھ زکوٰۃ ادا کند۔

۷۸۶

۳۲۵۶۰	۳۲۵۶۵	۳۲۵۶۴
۳۲۵۶۷	۳۲۵۶۳	۳۲۵۵۹
۳۲۵۶۲	۳۲۵۶۱	۳۲۵۶۶

دیگر:۔ یہ نقش چہل کاف کا ہے جمیع آموذات کے واسطے اگر آسیب کے واسطے فلیتہ کرے تو یہ اسم بھی لکھے عدد یہ ہیں ۷۰۰۰۳۷

آصف بن برخیا بادشاہ یکتا نوش یا عبد الرحمٰن کوتوال پریہ علیقاً ملیقاً مانی قلوبہم علیقاً۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم


۲۰۰۰۳۵۰
۴۱ ۲۰۰۰۳۰۰۰
۲۰۰۰۳۴۶
یا حضرت علی مرتضیٰ علی و امدد نی
۲۰۰۰۳۰۴۳
یا خذ و ذا ئیل
۲۰۰۰۳۰۴۹
۲۰۰۰۳۰۴۴
نقش چہل کاف ۲۰۰۰۳۰۵۱ فلان ابن فلان
۲۰۰۰۳۰۴۹
یا حضرت امام رضی اللہ عنہ
اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پڑھے جب تک آسیب نہ جائے۔
یا حضرت امام رضی اللہ عنہ

دفع دیو و سحر

اگر کسی مریض پر جادو کے ساتھ ساتھ دیو و پری وغیرہ کا بھی اندیشہ ہو تو سورۂ الحمد شریف کو سات بار اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ شریف کے میم الحمد کے لام میں ملا دے پھر مریض کو دم کر دے اور اس عزیمت کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس طرح جلائے کہ اس کا دھواں مریض کی ناک میں پہنچے، دو تین بار ایسا کرنے سے سحر جادو و دیو و پری کا اثر جاتا رہے گا اور مریض باذنہ تعالیٰ صحت یاب ہو جائے گا۔ عزیمت یہ ہے۔ علیقا ملیقا انت تعلم مانی قلوبھم فلکبوا فیھا ھم والغاؤن ۔ وجنود ابلیس اجمعون صبرصا ابوصا صادصا :

نیز مندرجہ ذیل دعا کو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر دے اور ایس دنوں تک اس مریض کو پلاتا رہے اور بہتر یہ ہے کہ یہ نقش بھی اس پانی میں ڈال دے، باذنہ تعالیٰ کیسا بھی جادو یا کوئی اثر ہو گا اکیس دنوں کے اندر اندر زائل ہو جائے گا ←

۸۸۹

۳۳۱۹۶	۳۳۲۲۸	۳۳۳۰۴	۳۳۳۰۸
۳۳۳۰۹	۳۳۳۰۳	۳۳۱۹۹	۳۳۳۰۶
۳۳۳۰۲	۳۳۲۲۵	۳۳۳۱۲	۳۳۱۹۹
۳۳۲۲۹	۳۳۳۰۰	۳۳۳۰۱	۳۳۳۰۶

دعا یہ ہے:- بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّٰھم اکفنا کلّ عدوٍّ و صغیرٍ و کبیرٍ قریبٍ و بعیدٍ ذکرٍ و انثیٰ حرٍّ و عبدٍ شریفٍ و وضیعٍ شاھدٍ و غائبٍ کافرٍ و مسلمٍ قویٍّ و ضعیفٍ ولا تسلّط علینا من لا یرحمنا و من یکفیہ غیرک برحمتک یا ارحم الراحمین ۰

دیگر: برائے سحر مریض کو لکھ کر پلائے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ علیقا ملیقا تلیقا خالقاً مخلوقاً کافیاً شافیاً ارتضیٰ مرتضیٰ بحق یا بدوح وننزل من القرآن ما ھو شفاء و رحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا بحق اسا تا لا اسالو سالیسا برحمتک یا ارحم الراحمین۔

دیگر:- اگر کسی پر سحر ہو یا دیو کسی جن خبیث مسلط ہو یا درد اندام یا اور کوئی عارضہ سخت و دشوار ہو کسی طرح دفع نہ ہوتا ہو تو اس دعا کو مشک و زعفران سے لکھے اور پانی میں گھول کر پلائے۔ اگر اس طرح فائدہ نہ کرے تو شہد میں گھول کر پانی میں ملا کر پلائے۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہ کرے تو ایک سفید مرغ کو ذبح کر کے اس کے خون سے تعویذ لکھے اور پانی میں ڈال کر وہ پانی گرم کرے اور پہلے اس سے سر دھوئے اور پھر غسل کرے۔ اس مرغ ذبیحہ کو پکا کر مریض کو کھلائے۔ اگر پچاس سال کا سحر ہو یا سو برس سے دیو مسلط ہو، انشاء اللہ اس تعویذ کی برکت سے دفع ہو گا۔ یہ دعائے معظم حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ بہت آزمودہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ۰ وَاَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُوَّةِ وَعَظَمَةِ اللّٰهِ وَبُرْهَانَ اللّٰهِ

وَضحُ اللّٰهِ وَلُطفُ اللّٰهِ وَکَبِیرُ اللّٰهِ وَصَلّٰی اللّٰهِ وَکَمَالُ اللّٰهِ وَصَدَّرَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ○ نقش یہ ہے

۷۸۶

۵۳۰	۵۴۳	۵۴۰	۵۳۷
۵۴۱	۵۳۶	۵۳۱	۵۴۲
۵۳۵	۵۳۸	۵۴۵	۵۳۲
۵۴۴	۵۳۳	۵۳۴	۵۳۹

دیگر:- برائے رد سحر

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکْ وَسَلِّمْ بجرے بجرے کواڑ باندھوں دسوں دوار بجرے آئے بجرے جائے بجرے سب جگ سمائے ٹونا جادو سب رد ہو جائے جو جو کرے سو سو مرے۔ الٹ پلٹ وہاں کا وہاں جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا بحق لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۲۱ دفعہ ۲۱ روز تک پڑھ کر سحر زدہ مریض کو دم کریں۔ انشاءاللہ صحت یاب ہو گا۔

دیگر:- مریض کو کسی میٹھی چیز پر سورہ والضحیٰ دم کر کے کھلائے اگر تلخ معلوم ہو تو سحر ہے ورنہ مرض ہے۔

دیگر برائے رد سحر:- زعفران سے لکھ کر ۲۱ روز مریض کو پلائیں

ا م ع ف ح ح ح م ا ع بحرمت حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ بحق کہیعص بحق حمعسق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا۔ ان اللّٰہ سَیُبْطِلُهٗ ط ان اللّٰہ لا یصلح عَمَلَ المفسدین۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح ساحر حیث اتی بحق احیا اشراھیا بحق لا الٰہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ

لطائف اشرفی

آسیب زدہ یا جن یا بھوت شیطان وغیرہ خواب میں پریشان کرتا ہو تو یہ لطائف اشرفی عمل میں لائیں۔ یہ تعویذ گلے میں پہنے۔

۱۔ بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السمٰوٰت والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبای الاء ربکما تکذبٰن برحمتک یا ارحم الراحمین۔

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

کہیعص حمعسق بحق یا بدوح وحضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ ہر مرتبے و آسیب و بلائے کہ در وجود فلاں بن فلاں باید دفع شود



۲۔ اس نقش کو کم از کم چالیس دن دھونی دیں۔

۳۔ اس تعویذ کو لکھ کر پلائے۔ کم از کم چالیس دن پوری سورہ فاتحہ کے بعد یا حی حین الاحی فی دعومۃ ملکہ دلقاز۔ یا حی سلام قولاً من رب الرحیم یا سلام یا سلام یا سلام۔ یا شافی یا شافی یا شافی

۷۸۶

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

کھیعص حمعسق حی یا بدوح وحضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ۔

برائے جادو ٹونہ

اس نقش کو زعفران سے لکھ کر گلے میں باندھیں اور سات روز تک پلائیں۔

۷۸۶

۹۹۲۵	۹۹۲۰	۹۹۲۷
۹۹۲۶	۹۹۲۴	۹۹۲۲
۹۹۲۱	۹۹۲۸	۹۹۲۳

شناخت آسیب و سحر و جن و امراض

شناخت آسیب و سحر و جن و امراض۔ اگر کسی مریض کا امتحان مقصود ہو تو یہ دونوں نقش لکھ کر ۳۱۷ کا نقش مریض کے داہنے ہاتھ پر تقریباً پانچ منٹ تک رکھا جائے۔ اگر حالت میں کسی قسم کا تغیر نہ ہو تو دوسرا نقش ۳۱۹ کا اسکی جگہ پر رکھے اگر ہاتھ میں یا بازو میں رعشہ پیدا ہو تو سمجھ لو کہ آسیب ہے اور سر یا گردن میں گرانی محسوس ہو تو سحر ہے اور اگر کوئی تبدیلی نہ ہو تو مرض جسمانی ہے۔

۷۸۶

۳۱۷	۳۳۰	۳۲۷	۳۲۴
۳۲۸	۳۲۳	۳۱۸	۳۲۹
۳۲۲	۳۲۵	۳۳۲	۳۱۹
۳۳۱	۳۲۰	۳۲۱	۳۲۶

۷۸۶

۳۱۹	۳۳۳	۳۳۰	۳۲۶
۳۳۱	۳۲۵	۳۲۰	۳۳۲
۳۲۴	۳۲۸	۳۳۵	۳۲۱
۳۳۴	۳۲۲	۳۲۳	۳۲۹

دیگر شناخت:۔ یہ ہے کہ مریض کی پاک مٹی کے برتن پر اس نقش کو لکھے اور سات مرتبہ مریض پر وارے پھر آگ تیز میں جو لکڑی کے کوئلہ کا ہو۔ اسمیں ڈالدے اگر حرف سفید سرخ ہونے کے بعد برتن کے معلوم ہو تو سحر ہے اور اگر حرف سرخ ہو تو آسیب ہے یا چڑیل۔ اگر حرف غائب ہو جائیں تو جن و پری ہے اگر حرف سیاہ

رہیں تو مرض ہے۔ نقش یہ ہے

۳۴۱۱۱۲٤۳ح۹٤۵۱۸۳۱۱

دیگر:- یہ ہے کہ مریض کے بائیں ہاتھ کو سونگھیں اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ مریض کی مٹھی پر دم کرکے اس کے بعد سورۂ ناس تین مرتبہ دم کرے۔ پھر مٹھی کھولکر سونگھے اگر مثل پاخانہ کے بو آئے تو سحر کیا گیا ہے۔ اگر مچھلی جیسی بو ہے تو آسیب ہے اگر حسب دستور ہو تو علاج کی طرف رجوع کرے۔

آسیب نظر آئے گا

ایک سانس میں نقش بھر کر مریض کو دیکھنے کو دیں۔ مریض نقش کی روشنائی میں دیکھیں اور جو کیفیت نظر آئے وہ عامل کو بتائے۔

۷۸۶

۱	عه ۱	۱۱	۸
۱۲	۷	۲۱	۱۳
٦	۹	■	۳
۱۵	عه	۵۰	۱۰

عزیمت علیکم یا شاہ یکتا نوشش مع افواج خود حاضر شود بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام را۔

عامل یہ عزیمت پڑھتا جائے۔

دیگر:-


اللہ اللہ بحق جبرئیل ابوبکر رضی اللہ عنہ
بحق میکائیل عمر رضی اللہ عنہ
بحق اسرافیل عثمان رضی اللہ عنہ
بحق عزرائیل علی رضی اللہ عنہ

دیگر:- اسے ایک سانس میں بھریں اور مریض کو اسکی روشنائی میں دیکھنے کو دیں عامل اسمیں بھی ۲۰ پڑوالی عزیمت علیکم یا ساہ یکتا نوشش مع افواج خود حاضر شود بحق حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام را۔

۷۸٦

۲۵	۳۰	۲۷
۲٦	■	۲۲
۲۱	۲۸	۲۳

دیگر:- یہ بھی آسیب کے مریض کیلئے ہے اسکی عزیمت یہ ہے۔

یا جبرائیل یا دردائیل یا زنتائیل یا تنکفیل۔ ۲۱ بار یا بدوح پڑھے۔

له ۱۳	حمع	طراح	۳۲
۸	عه	■	سے
۲	۸۸	۸	۱٤
عه	۲	۸	عه

برائے دفع سحر و آسیب :- سحر و آسیب و جن و شیاطین و ظالمان و تیر و تبر، شمشیر و بندوق ہرگز اثر نہ کند۔ اس نقش کو دیوار پر لٹکائیں۔


۷۸۶
جبرائیل علیہ السلام
امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
اسرافیل علیہ السلام
امیرالمؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ
لاالہ الااللہ
عیسیٰ روح اللہ
لاالہ الااللہ
آدم صفی اللہ
یاحی یا قیوم
لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ

آسیب ظاہر ہوگا اس نقش کو آسیب زدہ کے ہاتھ میں دینے سے جو کچھ اس پر ہوگا حاضر ہو جائے گا۔

۷۸۶

۳۴۱۴	۳۴۲۷	۳۴۲۴	۳۴۲۱
۳۴۲۵	۳۴۲۰	۳۴۱۵	۳۴۲۶
۳۴۱۹	۳۴۲۲	۳۴۲۹	۳۴۱۶
۳۴۲۸	۳۴۱۷	۳۴۱۸	۳۴۲۳

آسیب حاضر ہوگا :- مریض کے سر پر اگر حاضر ہو کر بات کرے اور اپنے کو حاضر کرے۔ یہ نقش لکھ کر مریض کے داہنے ہاتھ میں دے۔ مریض نقش لیکر مٹھی باندھ لے۔ عامل مریض کے سامنے یہ رباعی پڑھتا رہے۔

۷۸۶

۳۱۷	۳۳۱	۳۲۸	۳۲۴
۳۲۹	۳۲۳	۳۱۸	۳۳۰
۳۲۲	۳۲۶	۳۳۳	۳۱۹
۳۳۲	۳۲۰	۳۲۱	۳۲۷

اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما
درہائے بستہ راز کلید کرم کشا

حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ دو مؤکلوں کو دے۔ یہ نقش مریض کے ہاتھ میں دے۔

آسیب نظر آئے گا :- چینی کے پیالے میں پانی بھر کر نابالغ لڑکے کے سامنے رکھے کہ وہ اس کو بغور دیکھے اور عامل تین بار درود شریف اور سات بار سورہ لایلاف پھر تین بار درود شریف پڑھکر پیالے پر دم کردیں۔ جو کچھ آسیب ہوگا نظر آئے گا۔

طریقہ سحر جادو دریافت کرنے کا

اگر کسی کو سحر یا جادو وغیرہ کا شبہ ہو تو عامل کو چاہئے کہ اول وضو کرکے دو رکعت نماز نفل نہایت خضوع خشوع کے ساتھ ادا کرے۔ بعد ختم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتحہ

پڑھے اور عطر و پھول خواہ کوئی بھی پھول ہو اس پر دم کرے اور ایک نابالغ لڑکی کو پہنائے۔ اور اگر بتی خوشبو کے ساتھ کسی جگہ پر بٹھا دے۔ مریض کا رُخ جانب قبلہ ہو اور لڑکی سے کہے کہ مریض کی پیٹھ کو دیکھے اگر کوئی چیز دیکھتی ہو تو مجھ کو بتائے اول عامل سات مرتبہ درود شریف پڑھکر باآواز بلند یہ عزیمت پڑھتا جائے۔

عزمت علیکم یا شاہ یکتا نوش مع افواج خود حاضر شود بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام را۔

عزیمت جلد جلد پڑھتا جائے اور کچھ دیر کے بعد لڑکی سے پوچھے کہ بصورت بندر سیاہ کوئی بھیانک صورت تو نظر نہیں آتی ہے۔ پھر عزیمت پڑھتا رہے۔ یہاں تک کہ سوار مریض کی پیٹھ پر ظاہر ہوں اور وہ بلیات کو پکڑ کر کے گردن میں طوق ڈالکر مارتے ہوئے نظر آویں۔ اور یہی عزیمت سرسوں تیل پر ۱۴۱ بار پڑھکر دم کرے اور مریض مالش کریں اور سات کنوئیں کے پانی سے مریض کو تین یوم غسل دیں اور ۳ تعویذ پر یہ لکھکر روزانہ نہار منہ پلائیں۔ تعویذ یہ ہے۔

نہانے کے لئے:۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۱۱۱ ح و ط ی بطا معاوس م

یہ پینے کے لئے ہے

ل ن ر ا ھ ی م سلیمان بن داؤد علیہ السلام

دفع سحر و جادو

سحر و جادو کے اثر کو دفع کرنے کیلئے یہ عمل بہت مجرب ہے پاک و صاف مٹی کا ایک گولہ بنا کر اس پر دعاء سیفی سات بار پڑھکر آگ میں ڈالدیں۔ جب سُرخ ہو جائے تو صبح و شام تین غوطہ پانی میں دیکر آسیب زدہ کو پلائیں۔ انشاء اللہ تین روز میں سحر و آسیب جاتا رہے گا۔

دعائے سیفی یہ ہے۔

۷۸۶

آیۃ الکرسی دل قرآن، آپ چلے تو رحمان حلقہ حلقہ سات آسمان سات گلی ایک دربان پاؤں رکھے جبرئیل کرم کرے رحمٰن وجود موجود بارگاہ رسول اللہ چلہ کرے چلہ وہ نکرے جادو کرے سو مرے۔

دیگر:۔ آسیب زدہ کے سامنے بیٹھ کر سورہ جن پڑھے۔ باوضو باطہارت تلاوت کرے اور پانی کسی برتن میں اپنے پاس رکھے جب سورہ جن ختم کر چکے تو اس پانی پر دم کرکے مریض کے سینہ پر تھوڑا سا ملے اور دو قطرہ ناک کے دونوں نتھنوں میں ڈالدے۔ فوراً سحر اور جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔

دیگر: یہ بھی آسیب کیلئے ایک سانس میں بھر کر مریض کو دیکھنے کے لئے دے۔ اور نیچے دئیے ہوئے عزیمت کو پڑھتا جائے۔

۶	۱	۸
۷	■	۳
۲	۹	۴

یاحیّ یاحوا بحق یا اسرافیل بالشکر پریاں آمدہ حاضر شود

اسناد چہل کاف

چہل کاف کی عظمت کا اندازہ مصنف کی شخصیت سے کیجئے کہ حضور سیدی غوث الثقلین قطب الکونین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں رہتے ہوئے سریانی زبان کے بامعنی جملوں میں ۴۰ کاف جمع فرما کر طلسمی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس کے کثیر فوائد کتب عملیات میں درج ہیں۔

اول و آخر درود شریف گیارہ بار بعد دعاء عتصام ایک بار پڑھیں۔

اَبَرْصَا صَبَرْصَا صَارِصَا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَّلَا تَخْشیٰ اَبَرْصَا
۲۹۲ ۳۸۳ ۳۰۰ ۱۱۱۲ ۲۲۵ ۱۳۳۰ ۲۶۴
صَبَرْصَا سَارِسَا سَعِيَا اَخْنَسَا يَا اَللّٰه بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم
۳۲۳ ۳۲۲ ۳۳۱ ۶۶۲ ۰۰ ۷۸۶
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الشَّهِيَةِ مِنْ كُلِّ عَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ عَزَمْتُ
۱۳۰ ۲۲۰ ۲۱۵ ۱۳۰ ۳۰۳ ۴۲۹ ۵۱۰
عَلَيْكُمْ يَا حروزائيل بِحَقِّ الْكَافِ اَجِبْ وَاَطِعْ لِيْ وَسَخِّرْلِيْ
۱۴۰ ۲۰۳ ۱۱ ۱۳۲ ۲ ۱۲۹ ۹۰۶
فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ وَحُصُوْلِ مُرَادِيْ بِلَا مُكْثٍ وَّمُهْلَةٍ وَّاَلْفٍ
۹۹ ۳۲۲ ۱۴ ۲۵۵ ۴۹۳ ۲۸۲ ۱۱۸

قُلُوْبِنَا بَيْنَ قُلُوْبِ الْعَامَّةِ بِحَقِّ كَفَاكَ وَاَرِنِيْ عَالَمَ الْاَرْوَاحِ
۱۰۹ ۲۰۰ ۵۳۷ ۱۱۰ ۱۲۱ ۳۳۴ ۱۴۱ ۳۳۷
فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ سَرِيْعًا۔ (ایک بار)
۹۰ ۵۶۱ ۳۴۱

یامؤکل۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ كَفَاكَ رَبُّكَ يا كفائيل
۷۸۶ ۱۳۱ ۲۲۲ ۱۵۲
كَمْ يَكْفِيْكَ يا كمهكائيل وَاكِفَةٌ كفكا فَهَاكَ يا كفكائيل كمين
۶۰ ۱۴۰ ۱۳۲ ۱۱۳ ۱۳۱ ۱۰۶ ۱۶۲ ۶۲۰
كَانَ مَنْ كلكا يا كلكائيل تكركرا يا كتمائيل لكر الكر
۴۱ ۵۰ ۴۱ ۱۶۲ ۸۴۰ ۵۱۳ ۴۹۱
فِيْ كبدي يا كيكائيل تجلي يا كهكائيل مشكشكة
۹۰ ۳۶ ۱۰۲ ۴۴۳ ۹۰ ۱۶۸۵
يا ميكائيل كلكلك لككا يا ككائيل كفاك مابي يا كلكائيل
۱۳۲ ۱۳۰ ۴۱ ۱۴۲ ۱۳۱ ۵۳ ۱۲۲
كفاك الكاف يا كمكائيل كربته يا كركرائيل يا كوكبا كاف
۱۳۱ ۱۳۲ ۱۲۲ ۶۲۷ ۴۹۳ ۶۰ ۴۱
يا كوكائيل يحكي كوكب الفلكا يا اهكمائيل يا فلكائيل
۹۸ ۴۸ ۴۸ ۱۶۳ ۱۱۸ ۱۸۲

(۱۰ بار یا صرف ۵ بار چہل کاف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةٌ كَفْكَا فَهَاكَ كَمِيْنٍ كَانَ مَنْ كَلْكَا تَكَرْكُرَ الْكَرِّ الْكَرِّ فِيْ كَبِدِيْ تَجَلِّيْ مُشَلْشَلَةً كُلُّكَ لَكِكًّا كَفَاكَ مَا بِيْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهُ يَا كَوْكَبًا كَانَ يَحْكِيْ كَوْكَبَ الْفَلَكَا۔ (۴۱ بار)

دعاء اختتام بِحَقِّ يَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِيْ سَيْئًا لِلّٰهِ بِحَقِّ يَا حَلِيْمُ يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا وَكِيْلُ يَا نَصِيْرُ يَا رَقِيْبُ يَا سَلَامُ يَا كَرِيْمُ يَا اَللّٰهُ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ وَبِحَقِّ

حمعسق حصار کردم لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه مہر کردم بنام مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه بحق یا حروزائیل وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝ (ایک بار)

تیل، پانی، اگربتی، لوبان، مٹھائی، نمک پر دم کرکے رکھیں سحر آسیب کے لئے یا صرف بیماری کے لئے اس کو کھلائیں۔ پہلے نمک دیں اگر نمک دینے سے کام چل جائے تو بہتر ہے ورنہ مٹھائی کھلائیں اور پانی پلائیں۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر آسیب زبردست ہو تو کان میں ایک ایک بوند تیل کا ڈالیں کہ اندر پہنچ جائے۔ اگربتی اور لوبان کی دھونی ناک میں دیں۔ انشاءاللہ آسیب کا اثر فوراً ختم ہوجائے گا۔

آسیب کا حصار

اگر مریض کے آتے ہی مرد کے داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے اور عورت کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے پیشانی کے بالوں کی جڑ تک سات تار نیلے یا کالے ڈورے سے ناپ لیں اور اس کو دہرا کر اعتصام چہل کاف با مؤکل مع اختتام، بار پڑھیں اور ہر بار ڈورے پر دم کرکے ایک گرہ لگاتے جائیں جب سات

گرہیں لگ جائیں۔ گنڈہ کمر میں باندھیں۔ جب اثر ختم ہوجائے یا بھاگ جائے تو گنڈہ گلے میں ڈال دیں۔

حصار کا دوسرا طریقہ

مذکورہ دعائیں حسب ضرورت ایک انچ کی کیلوں پر دم کرکے رکھ لیں۔ دیوار میں گاڑنے کے لئے موٹی کیلیں لیں اور ان کو مکان کے ہر کونے پر ایک ایک کیل گاڑ دیں اور ایک ایک چارپائی کے پایوں پر گاڑ دیں مگر مریض اس پلنگ پر نہ ہو بلکہ اس کا استعمال کا کوئی کپڑا بھی اس پر نہ ہو تب گاڑیں اور گاڑتے وقت باوضو ہو اور آیۃ الکرسی شریف پڑھتا رہے۔

تیسرا حصار

جو آیۃ الکرسی شریف هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ تک اس طرح پڑھے کہ مکان کے ایک کونے پر ہاتھ رکھ کر آیۃ الکرسی شریف وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ تک پڑھے اور اس سے آگے لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ سے هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝ تک پڑھتے ہوئے دوسرے کونے تک جائے اور اس کونے پر ہاتھ رکھ کر پھر آیۃ الکرسی شریف وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ تک پڑھے۔ اسی طرح پورے مکان کا حصار کرے۔ اس کے بعد کیلیں گاڑ دے۔

شادی کے پیغام کثرت سے آئیں!

۱۔ لڑکا یا لڑکی کی شادی کا پیغام نہیں آتا ہو یا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوں بار بار رشتہ طے ہونے کے بعد چھوٹ جاتا ہو تو چاہیے کہ وقت سعد میں اس دعا کو زعفران سے لکھ کر اس لڑکا یا لڑکی کے گلے میں لٹکائے ان شاء اللہ تعالیٰ رشتہ اور رشتہ کی پختگی کا سامان غیب سے ہو جائے گا۔ تعویذ کو خوب اچھی طرح موم جامہ کرے یا کسی باریک پلاسٹک میں خوب اچھی طرح لپیٹ لے تاکہ پسینہ یا غسل کا پانی وہاں تک سرایت نہ کرے۔

جب تعویذ کو موم جامہ کر دیا جائے یا پلاسٹک میں خوب اچھی طرح لپیٹ دیا جائے تو اس کے ساتھ غسل خانہ یا استنجا خانہ کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تعویذ اس وقت تک گلے میں پڑی رہے جبتک کہ بخیر و خوبی شادی نہ ہو جائے۔ شادی ہو جانے کے بعد تعویذ کو بہتے پانی میں ڈال دیا جائے اور فقیروں پر کچھ صدقہ کر دیا جائے۔

بسم اللّٰہ الرّحمٰن الرحیم یا حلیم لا یعجل یا کریم لا یجهل یا ذا الجبروت و یا ذا الجود والقوّۃ یا ذا الرّحمة الواسعة لا الٰه الا اللّٰه محمّد رّسول اللّٰه صلی اللّٰه تعالیٰ علیه و اٰله محمود کریم موجود و هو الغفور الودود، و من کلّ شیءٍ خلقنا زوجین لعلّکم تذکّرون، اللّٰهم بحق اٰیة هٰذا و بحرمة محمد علیه السّلام، ان ترزق هذه المرأة (…… اس جگہ لڑکی اور اس کی ماں کا نام لکھے) زوجاً موافقاً غیر مخالف بحرمة

محمد و اٰله اجمعین ۰

تعویذ اگر مرد کے لئے ہے تو بجائے هٰذه المرأة کے اخیر تک یہ لکھنا چاہیے

ان ترزق هذا الرجل (…… لڑکا اور اس کی ماں کا نام) زوجة موافقة غیر مخالفة الخ۔

نوٹ:۔ دعاء مذکورہ کے لکھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ جن حروف کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کو کھلی ہی رہنی چاہیے مثلاً ھ، ہ، ع، ص، و، ف، ق، وغیرہ۔ تعویذ مذکور جب کسی غیر مسلم کو دینی ہو تو اس نقش کی صورت میں دی جائے۔

لڑکی کے لئے

۳۵۸۹	۳۵۹۲	۳۵۹۶	۳۵۰۵
۳۵۹۹	۳۵۹۸	۳۵۰۹	۳۵۹۱
۳۵۹۹	۳۵۹۷	۳۵۹۸	۳۵۹۰
۳۵۹۳	۳۵۹۷	۳۵۹۳	۳۵۹۴

ان ترزق هذه المرأة (لڑکی کا نام مع والدہ)
زوجاً موافقاً غیر مخالف

لڑکا کے لئے

۳۵۸۹	۳۵۹۲	۳۵۹۹	۳۵۹۵
۳۵۹۶	۳۵۹۸	۳۵۷۹	۳۵۹۱
۳۵۹۳	۳۵۹۷	۳۵۹۸	۳۵۹۰
۳۵۹۳	۳۵۹۱	۳۵۹۲	۳۶۰۰

ان ترزق هذا الرجل (لڑکا کا نام مع والدہ)
زوجة موافقة غیر مخالفة

۲۔ یہ آیات و نقش بھی دختر نا کتخدا کے بخت خوابیدہ کو بیدار کرنے کیلئے خاص ہے لڑکوں کے لئے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تعویذ آویزاں ہو جانے کے بعد چلہ پورا نہیں ہو گا کہ غیب سے جوڑوں کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ یہ تعویذ بھی ساعت سعد میں زعفران سے لکھی جائے گی۔

نوٹ:۔ جن جن تعویذوں کو زعفران سے لکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اگر زعفران یا مشک دستیاب نہ ہو تو کسی بھی پاک روشنائی سے لکھ سکتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَیَنْصُرَکَ اللّٰہُ نَصْرًا عَزِیْزًا ۔ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَکُمُ الْفَتْحُ ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۔ وَعِنْدَہٗ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۔ وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَکَانَتْ اَبْوَابًا ۔ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۔

۳۱۱۸	۳۱۲۴	۳۱۲۳	۳۱۲۱
۳۱۲۵	۳۱۲۰	۳۱۱۳	۳۱۲۶
۳۱۱۹	۳۱۲۲	۳۱۲۹	۳۱۱۵
۳۱۲۹	۳۱۱۶	۳۱۱۹	۳۱۲۳

۳۳۴۸	۳۳۶۱	۳۳۵۸	۳۳۵۵
۳۳۵۹	۳۳۵۴	۳۳۴۹	۳۳۶۰
۳۳۵۳	۳۳۵۶	۳۳۶۳	۳۳۵۰
۳۳۶۲	۳۳۵۱	۳۳۵۲	۳۳۵۷

نوٹ :۔ یہی تعویذ الکرسی پر ۳ اوپر دی ہوئی آیات مذکورہ کے نقش بنا کے ساتھ یہ نقش دی جائے

پیغام شادی بکثرت آویں

یٰاَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰکَ سے وَکِیْلًا تک ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کر ایک ڈبے میں رکھ کر گھر میں رکھیں۔ انشاء اللہ لڑکیوں کے پیغام شادی بکثرت آنے لگیں گے۔

- بازوبند برائے شفاء درد دنداں

بازوبند حضرت امیر المومنین مولائے کائنات حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۷۸۶

۲۲	۵۱۲	۳۱۱	۵۱۳
دح	عه	۱۳	ح د
دح	۲	ـه	۵۲۳
۶	۳	۱۹	۶

اولاد کیلئے مجرب عملیات

عورت یا مرد جو ان آیات کو صحیح پڑھ سکیں ہر روز ایک بار بحضور قلب پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پیا کریں۔

انشاء اللہ اولاد ضرور ہوگی

دعا یہ ہے :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِیْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِیْ قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَکَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ ۝

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

۶۴۵۵	۶۴۴۸	۶۴۵۳
۶۴۵۰	۶۴۵۲	۶۴۵۴
۶۴۵۱	۶۴۵۶	۶۴۴۹

۲ نقش لکھ کر ایک مرد کے گلے میں دوسرا عورت کے گلے میں ڈالا جائے۔ اگر اس نقش کے چاروں طرف مذکورہ بالا آیات لکھیں۔ بہت مفید ہے۔

دوسرا عمل :۔ اولاد کے لئے ان آیات اور نقش کو کندہ کرا کے گلے میں ڈالیں اور روزانہ پانی میں ڈال کر دھو کر پیتی رہیں اور ایک تعویذ گلے میں پڑا رہے اور ایک تعویذ کاغذ پر

لکھوا کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالیں کہ ناف سے نیچے رہے۔ کمر سے باندھے نقش سامنے پیڑو پر رہے۔

یٰزَکَرِیَّآ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلٰمِ ٍ اسْمُهٗ یَحْیٰی لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنّٰی یَکُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّکَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا ۝ قَالَ کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ هَیِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکُ شَیْئًا ۝

۷۸۶

۳۹۵۸	۳۹۵۱	۳۹۵۶
۳۹۵۳	۳۹۵۵	۳۹۵۷
۳۹۵۴	۳۹۵۹	۳۹۵۲

اجب یا جبرائیل قال انما انا رسول ربک لِاَهَبَ لَکِ غُلٰمًا زَکِیًّا۔

حمل کا قرار نہ پکڑنا

بعض عورتوں کا حمل خود بخود غائب ہو جاتا ہے ان کو چاہئے کہ مندرجہ ذیل کلمات کو ساعت سعد میں زعفران سے لکھکر سات دنوں تک لگاتار ہر مہینہ میں پلائے۔ چھ مہینے میں بیالیس نقوش پلا دینے کے بعد حمل کی پوری حفاظت ہو جائے گی اور آئندہ کیلئے بھی حمل قرار پائے گا کلمات مبارکہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمد للہ وبحق کلام اللہ القرآن وبحق الجلیل الجبار وبحق العزیز الغفار وبحق توریت وبحق انجیل وبحق زبور وبحق فرقان محمد بالمصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم وبحق جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل وبحق کلھم اجمعین ط

سانپ کے کاٹے کا مجرب عمل

یہ عمل شیخ المشائخ، شمس الاسلام حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو بہت ہی مجرب اور پُر اثر ہے اور عمر بھر کے لئے ایک ہی زکوٰۃ کافی ہے بشرطیکہ ادائے زکوٰۃ کے بعد وہ جھینگا اور ادجھڑی کبھی نہ کھائے اور اگر ہر سال زکوٰۃ کی تجدید کرتا رہے تو عامل کا کوئی وار خالی نہیں جائے گا۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان شریف کی ستائیسویں یا اٹھائیسویں راتوں کو نماز عشاء و وتر کے بعد تازہ وضو کرے اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے پھر خلوت میں جا کر بیٹھ جائے اور ان ابیات کو ایک سو پچیس ۱۲۵ بار پڑھے بس عامل ہو گیا اس کے بعد اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اگر کبھی رات کو کھاتے وقت چراغ بجھ جائے تو کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر اگر سانپ کا کاٹا ہوا کوئی اس عامل کے پاس آئے تو انہیں ابیات کو تین تین بار پڑھکر دم کر دے تیسری بار کٹی ہوئی جگہ پر تھوک دے، ، گزیدہ فوراً اچھا ہو جائے گا۔ واضح ہو کہ دم کرنے سے پہلے سانپ کے کاٹے ہوئے سے سوا سیر یا سوا کیلو شکر حاصل کرے اور اس پر چہار قل و فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب شیخ الاسلام حضرت سیدنا بابا فریدالدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو نذر کرے ——— ابیات یہ ہیں:۔

خدا کہے تم سنو محمد سانپ کا بھو کسا   پکار کرے محمد جا دیکھو گھر بیٹھا
آدم چام لپٹ من ماتھے ٹھہرایا   ہاکہ مارے بکھ جھڑے بزل کرے خدا

متفرقات

دعاء اسم اعظم برائے ہر کار دفع مفلسی

خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تہجد کے بعد صبح کی نماز تک لاتعداد پڑھا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا مقصد طلب کرے انشاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی :-

یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ اَنْتَ اللّٰہُ بَلٰی وَاللّٰہُ اَنْتَ اللّٰہُ لَااِلٰـہَ اِلَّا اَنْتَ اللّٰہُ اَللّٰہُ اِنَّـہٗ لَااِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ اَقْضِ عَنِّی الـدَّیْنِ وَارْزُقْـنِیْ بَعْـدَ دَیْنٍ ؕ

برائے قضائے حاجات

ایک ہفتہ مسلسل اس دعا کو پڑھے اور دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ. یَاقَدِیْمُ یَا دَائِمُ یَا قَائِمُ یَاحَیُّ یَاقَیُّوْمُ یَا اَفْرَادُ یَا وِتْرُ یَا اَحَدُ یَاصَمَدُ یَامَنْ اِلَیْہِ الْمَصِیْرِ یَامَنْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّـہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ؕ

- **برائے دیوانگی :-** اگر جلالی عمل کے باعث دیوانہ ہوگیا ہو تو ۳ یوم تک بعد نماز فجر ۱۱۰۱ بار دعائے قنوت اور درمیان میں ۱۰۱ بار درود شریف پڑھکر دیوانے کا ۱۰۰ بار دم کرتا رہے تا بصحت

برائے آسیب زدہ

یہ نقش تکیہ کے نیچے رکھیں

۷۸۶

۹۹۰۹	۹۹۲۲	۹۹۱۹	۹۹۱۶
۹۹۲۰	۹۹۱۵	۹۹۱۰	۹۹۲۱
۹۹۱۴	۹۹۱۷	۹۹۲۴	۹۹۱۱
۹۹۲۳	۹۹۱۲	۹۹۱۳	۹۹۱۸

- فلیتہ خاص حضرت مخدوم سمنانی قدس سرہٗ

۷۸۶ ۱۱۱ ع ع ع ع سلام قولاً من رب الرحیم

ابلیس فرعون ھامان ضحاک لعین لعین لعین

نمرود شداد قارون ابوجہل اللعین اللعین اللعین



بحرمت حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہٗ بر بلائیکہ درجو جور فلاں بن فلاں باشد سوختہ و خاکستر گردد۔

- **برائے دشمنان**

بعد نماز عشاء سو بار تصور کر کے پڑھے اور دشمن کی طرف دم کرے

اَللّٰھُمَّ اکْفِنَا خَاشِئَتُ بِمَا صَحِیْحٌ ۔

• برائے عزت وجاہ وفلاح دارین

ہر بلا ارض وسماوی وہر کام میں مدد غیبی سال بھر تک ہوگی۔ شعبان کی چودھویں تاریخ کو نئے قلم سے نئے برتن میں زعفران گھول کر سرخ کاغذ پر بعد نماز عصر لکھیں اور موم جامہ کرکے اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ ہر کام میں برکت ہوگی۔



• حاضرات فاخرشاہ کی

یہ ہے کہ نزدیک ایک چراغ ایک سفید کپڑا بچھا کر ۲-۳ روپیہ انکے نذر کے نام سے اس کپڑے پر رکھے اور شیرینی، پھول عطر رکھے۔ ہفتہ کے روز یا منگل کے روز یہ عمل کرے۔ ہر قسم کا آسیب جاتا رہے گا۔ نقش یہ ہے۔

فلیتہ حاضرات فاخرشاہ برائے دفع آسیب وجن وغیرھا

عو١	١	٨	١١
٧	١٢	١٣	٢
٩	٦	٣	١٦
عو	١٥	١٠	٥

برکت یک امی ولبت دیک ہے جملہ دیو دیواں پری دپریاں جن جنیاں سحر ساحراں جوگ جوگنیاں دغول بیابانیاں ودفع جن دکالاد دگوراد پیلا دہرچہ ارواح ہشت جنس انچہ درد جود فلاں بنت فلاں مزاحمت میں بدرین فلیتہ چراغ درآید و بسوزد و دفع گردد کرمت ایں نام یا علیقا ملیقا انت تعلم ما فی قلوبھم ملیقاً علیقاً انت تعلم ما فی انفسھم جن ابلیس سبلیس اسپلیس ابلیس شداد بن عاد دست کوی ابلیس نمرود فرعون ابلیس لعین ماروی سوختہ گردد بحق فاخرہ ہرچہ درد جود فلاں بنت فلاں مزاحمت سہلید درین فلیتہ چراغ درآید و بسوزد و دفع شود بحرمت پنجتن پاک دوازدہ امام علیہ السلام

• عمل یَا وَھَّابُ

دعوت اسکی چودہ لاکھ بار پڑھنا۔ بعد ادائے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بعد روزانہ ایک ہزار چار سو چوالیس مرتبہ پڑھا کریں۔ وہ دنیا میں کبھی محتاج نہ رہے گا۔

دوسری ترکیب:۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو تہجد کے وقت غسل کر کے دوگانہ ادا کرے اور سر ننگا کر کے تین سو بار یَا وَھَّابُ پڑھے۔ پھر کھڑے ہو کر خدائے پاک سے دعا مانگے۔ پھر بیٹھ کر چار سو مرتبہ پڑھے پھر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے۔ پھر بیٹھ کر تین سو بیالیس مرتبہ پڑھے پھر سجدے میں سر رکھکر دعا مانگے۔ اس طرح تین شب کرے۔ انشاءاللہ مطلب حاصل ہوگا اول و آخر گیارہ بار درود شریف ضروری ہے اور تین روز تک ترک حیوانات لازم ہے۔

تیسری ترکیب یہ ہے کہ چودہ ہزار مرتبہ چودہ روز تک پڑھے۔

چوتھی ترکیب یہ ہے کہ روزانہ چودہ مرتبہ چودہ روز تک پڑھے اور چودہ تعویذ روزانہ لکھ کر دریا میں ڈالدے یا حوض یا نہر جو بھی ہو مگر وہاں مچھلیاں ہوں۔

خانہ خالی میں اپنا مطلب لکھے۔

نقش یہ ہے۔

۱	۵	۸
۱۰	یہاں اپنا مقصد لکھے	۴
۳	۹	۲

• دین و دنیا کی آفات سے نجات

یہ ہشت آیات پاک اکسیر اعظم کی صفت رکھتے ہیں۔ دین و دنیا کی آفات سے نجات پائے۔ ورد کرنے والا اگر کوئی شخص ناحق کسی معاملہ میں ماخوذ ہو گیا ہو اگر خون ناحق کا بھی الزام ہو تو بحکم خدا بری ہو اگر قرض دار ہو تو قرض ادا ہو۔ غرض کوئی کام و کوئی مصیبت ہو تو خدا رحم فرماتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ آٹھوں سلام اس طرح پڑھیں کہ بعد نماز فجر چالیس ۴۰ بار، بعد نماز ظہر ۳۰ بار بعد نماز عصر ۱۲ بار بعد نماز مغرب گیارہ بار بعد نماز عشا آٹھ بار اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار۔ انشاءاللہ تعالیٰ اکیس یوم میں کامیابی ہوگی۔ مگر قرض کے واسطے چالیس یوم تسخیر خلائق ہر حالت میں ہوتی اس کی خواص اثر کسی کام کے واسطے ورد کردیں تسخیر عام ساتھ ساتھ ہوگی اگر کوئی شخص ایک سو ایک بار ایک بیٹھک میں پڑھے تو عجیب و غریب اثر دیکھے۔ آیات متبرکہ یہ ہیں۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ الرَّحِيْمٍ ۝ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰٓى اِلْيَاسِيْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ۝

ختم خواجگان چشت علیہ الرحمہ

سورہ فاتحہ (تعوذ و تسمیہ کے ساتھ)	۷ بار (مع آمین)
درود شریف	۱۰۰ بار
سورہ اَلَمْ نَشْرَحْ	۷۰ بار
سورہ اخلاص	۱۰۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا قَاضِیَ الحاجات	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا مُجِیْبَ الدَّعْوَاتِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا حَلَّ الْمُشْکِلَاتِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ کَافِیُ الْمُھِمَّاتِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا شَافِیُ الْاَمْرَاضِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا دَافِعُ الْبَلِیَّاتِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا مُسَبِّبُ الْاَسْبَابِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا مُقَلِّبُ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَار	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا دَلِیْلُ الْمُتَحَیِّرِیْنَ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا غِیَاثُ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ یَا خَیْرُ النَّاصِرِیْنَ	۱۰۰ بار

اَللّٰھُمَّ یَا خَیْرُ النَّاصِرِیْنَ	۱۰۰ بار
لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ	۱۰۰ بار
لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَا مِنْهُ اِلَّا اِلَیْهِ	۱۰۰ بار
اَللّٰھُمَّ اٰمِیْن بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ	۱۰۰ بار

بعد ختم فاتحہ حاجات اپنی طلب کرے بوسیلہ بندہ خداد سرکار جیلاں و خواجگان چشت خصوصاً سرکار غریب نواز بعد درود شریف پڑھکر فاتحہ ختم کردے۔ بدون خلافت طریقہ مذکورہ نہیں ہے۔ تا وقتیکہ اجازت نہ لے لیں۔

برائے حاجت ۴۰ روز تک عصر سے لیکر رات تک یا جمعہ کے نماز کے بعد شروع کریں۔

عمل برائے تسخیر القلوب جمیع النَّاس

یَا نُوما ئیل۔ یا شرفائیل۔ یا سراکیطائیل بحق یا عَزِیز وَسَخِّرْلِیْ قُلُوْبِ جَمِیْعُ النَّاس۔

چالیس روز تک روزانہ وقت معینہ پر ۲۷۰ مرتبہ پڑھا کرے بعد ختم چلّہ روزانہ ۱۰۰ مرتبہ کی مداومت اختیار کرے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ ترکِ حیوانات شرط نہیں ہے لیکن دوران چلّہ اگر پابندی کر سکے تو بہتر ہے۔

مکان کی بنیاد رکھنے کے خواص

بیساکھ	میں بنیاد رکھنا	دولت ونعمت زیادہ ہو
جیٹھ	〃 〃 〃	خانہ بد ہووے اور حیواناں سزاوار باشد
اساڑھ	〃 〃 〃	اونٹ وگھوڑے کے لائق نہ ہووے۔
ساون	〃 〃 〃	فرزندوں سے بیگانہ، بادشاہ وحکام سے نقصان یا دیواریں گر پڑیں۔
بھادوں	〃 〃 〃	ہمیشہ گھر میں رنج والم ہو
کنوار	〃 〃 〃	ہمیشہ اس گھر کے لوگوں اور گھر کے پڑوسیوں سے لڑائی قائم رہے۔
کارتک	〃 〃 〃	کام میں کشادگی ومنافع بسیار رہے۔
اگھن	〃 〃 〃	جو کچھ خدا سے چاہے پائیگا۔
پوس	〃 〃 〃	اس گھر میں اکثر آگ لگنے کے واقعات ہونگے
ماگھ	〃 〃 〃	فرزند نرینہ پیدا ہو۔
پھاگن	〃 〃 〃	نیک ہوگا نعمت کم نہیں ہوگا۔
چیت	〃 〃 〃	ہرگز اس گھر میں خوشدلی نہ ہو۔

مکان کی لمبائی ہمیشہ شمال وجنوب ہونا چاہئے اور چوڑائی پورب پچھم کم ہو۔ مکان کی خوابگاہ ہمیشہ نرت کی سمت ہو یعنی پچھم ودکھن کے کونے پر اور مکان میں اپنا بیٹھکا بائب کی سمت میں یعنی اتر پچھم میں ہو۔

مکان کے سعد ونحس کیلئے ذیل کی باتوں پر دھیان رکھیں

بروز دوشنبہ	بنیاد رکھنا	زیادتی مال ہو
〃 یک شنبہ	〃 〃	آگ زیادہ لگے
〃 سہ شنبہ	〃 〃	فراغت نہ ہوگی
〃 چہارشنبہ	〃 〃	صاحب خانہ نیک وصالح ہوگا
〃 پنجشنبہ	〃 〃	جو روزگار کرے فارغ البالی ہو
〃 جمعہ	〃 〃	متاع دنیوی سے مالا مال ہو
〃 شنبہ	〃 〃	اکثر لڑکی پیدا ہو

بنیاد رکھنے سے پہلے درج ذیل تراکیب پر عمل کرے تاکہ بلائیں نہ پیدا ہوں۔ بنیاد رکھتے وقت چاروں کونوں پر اذان کہے۔ تاکہ دیو پری اور حاکم وقت کے شر وفساد سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اس لئے اذان پہلے قبلہ کی طرف کہے۔ بعدہٗ سورہ فاتحہ پڑھے۔ پھر جنوب کی طرف اذان کہے اور سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر شمال کی طرف اذان کہہ کر سورہٗ قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔ پھر پورب کی طرف اذان کہے اور سورہٗ قل اعوذ برب الناس پڑھے پھر آسمان کی جانب رُخ کرکے آیۃ الکرسی پڑھے۔ پھر زمین کی طرف رُخ کرکے قل یاایہا الکفرون پڑھے۔ بفضلہٖ وکرمہٖ رب جہاں مال واولاد خوب ہو

طِبّی نسخے

برائے درد گردہ :- جہاز آبی کی کائی جو جمی ہوئی سخت پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ اسکی انگوٹھی بنوائے اور نگ لگا کر پہن لے اور پانی میں دھو کر پیئے۔ درد موقوف ہوگا۔ مجرب ہے۔

- **ہاتھ پیر کی جلن :-** سوزش معدہ، ضعف دماغ، خشک کھانسی دل کی کمزوری اور ہاتھ پیر کی جلن میں بیحد مفید ہے۔

شربت بادام صندلی ۵ تولہ، مغز بادام مقشر ۹ ماشہ، دانہ الائچی خرد ۹ ماشہ، سب کو نصف سیر عرق گلاب میں گھونٹ کر چھان لیں۔ اور مصری تین پاؤ ملا کر کے قوام تیار کر لیں۔

خوراک ۵ تولہ شربت میں حسب ضرورت پانی ملا کر صبح شام استعمال کریں۔

• قوت باہ کیلئے

تالمکھانہ، تیکھر ہموزن ملا کر سفوف تیار کریں، گھی شکر ملا کر صبح و شام ۵ تولہ استعمال کریں۔

- **دیگر :-** بہمن سرخ، بہمن سفید، ثعلب مصری، شقاقل مصری، تودری، گل سرخ، گل سیوتی، کمرکس، پلنگ توڑ، گوکھلی، عاقر قرحا، سنگھاڑا خشک، ارض قرطبندی، اس کے ہموزن شکر

ملا کر سفوف کر لیں اور صبح و شام ایک ایک تولہ استعمال کریں۔ کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔

• دانت کے درد و جملہ امراض دندان

عطیہ حضرت حکیم مولانا سید شاہ عبدالحیٔ اشرف صاحب سجادہ نشین کچھوچھہ شریف قبلہ نے بذات خود نوٹ کر کے دیا تھا۔

کتھ سفید ایک تولہ، پھٹکری بریاں ۶ ماشہ، توتیائے سبز ۴ ماشہ دانہ الائچی خرد ۹ ماشہ۔ کوٹ چھان کر منجن تیار کریں اور دانتوں پر ملیں۔

- **دیگر :-** کوئلہ کچلہ ایک تولہ، تخم المتاس ایک تولہ، مرچ سیاہ ۶ ماشہ، نمک ۶ ماشہ، سونٹھ ایک تولہ۔ کوٹ چھان کر سفوف تیار کر لیں اور بطور منجن استعمال کریں۔
- **دیگر :-** دانتوں کے شگاف میں ہینگ بھر دیں۔ درد میں افاقہ ہوگا۔
- **دیگر :-** پھٹکری کڑوا تیل میں حل کر کے نیم گرم مالش کریں۔ درد میں افاقہ ہوگا۔

• ذیابیطس (شوگر) کا شرطیہ علاج

صبح کو ادرک کے عرق میں شہد ملا کر بڑا ایک چمچہ چاٹ لیں۔ دوپہر کو دودھ یا چائے میں شہد ملا کر پئیں، شام کو کلونجی ایک چمچی ایک چمچہ شہد میں ملا کر استعمال کریں۔ ایک ڈیڑھ ہفتہ میں شوگر اعتدال پر آجائے گا۔ گیہوں اور جو کا دلیہ کھائیں۔

برائے امساک

گندھک آملہ سار ۲ تولہ صاف چھلا ہوا لہسن ۵ تولہ لیکر کھرل کریں اس کے بعد بکری کا تازہ دودھ ملاتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں جب لعاب پیدا ہو جائے تو باجرہ کے دانے کے برابر گولیاں بنالیں اور سایہ میں خشک کرکے صبح وشام ایک ایک گولی صبح وشام چالیس یوم تک استعمال کریں بلکہ جب مناسب سمجھیں کھائیں۔

• برائے فالج لقوہ، جذام آتشک رعشہ، نامردی

سرسوں تیل ایک پاؤ میں مچھر ۲۰۰ ڈال کر بند کرکے ۱۵ یوم رکھیں جب ضرورت سمجھیں مالش کریں۔

• برائے جریان

موصلی سیاہ، موصلی سفید، ثعلب مصری، ثقاقل مصری، سنگھاڑا خشک، گرہی ہموزن لیکر کھرل کرلیں اور ان سب دواؤں کے برابر شکر ملائیں۔ ۶ ماشہ صبح ۶ ماشہ شام بکری کے دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

• برائے بواسیر

جن لوگوں کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اس سے روزانہ کچھ پیسہ مانگیں اور جمع کریں کہ ایک چاندی کا چھلہ بنا سکیں۔ اس کے بعد بقرعید کے ایام میں بھینس یا بکرے کے منہ میں ڈالکر منھ بند کرکے قربانی کریں بعد قربانی اسکے منہ سے نکالکر انگلی میں پہنائیں۔ بواسیر دفع ہوگی۔

برائے اولاد

مرد کیلئے۔ لبوب کبیر ۱۲۵ گرام۔ حلوہ ثعلب ۲۵۰ گرام۔ معجون آرد خرما ۲۵۰ گرام۔ ہمدوجین ٹکیہ۔ جیری فورٹ

عورت کیلئے۔ دواالمسک معتدل جواہر دالی ۱۲۵ گرام۔ معجون سپاری پاک ۲۵۰ گرام۔ معجون حمل عنبری ۶۰ گرام۔ مذکورہ ادویات ملالیں پھر انہیں نہار منہ ایک ایک تولہ دودھ کے ہمراہ صبح وشام لیں۔ حلوہ بادام ناشتہ کے بعد ایک تولہ لیں۔

برائے قوت مردمی

کیچوے کو خشک کرکے اس کا سفوف بنالیں اور پھر نہار منہ بوزن ۲ رتی شیر گاؤ (گائے کا دودھ) کے ساتھ استعمال کریں۔

برائے دمہ

روزانہ ایک عدد کھٹمل گڑ میں لپیٹ کر مریض کو کھلائیں

دیگر:۔ ایک پاؤ گائے کا گوشت لیں اس کے ہموزن ہلدی ملاکر مٹی کی ہانڈی میں رکھکر اس قدر پکائیں کہ دونوں اشیاء مثل سفوف ہوجائیں اس سفوف کو مریض روزانہ سویرے بقدر ۲ رتی شیر گاؤ کے ہمراہ استعمال کریں

تیل برائے لقوہ

پیلی سرسوں کا تیل ۵۰۰ گرام۔ پیاز جن میں انکھا نکلا ہو ۲۵۰ گرام۔ مدار کی جڑ ۲۵۰ گرام۔ دھتورے کی جڑ ۲۵۰ گرام۔ مدار کا پتہ ۵ عدد۔ دھتورے کا پتہ ۵ عدد

افیون ۳ ماشہ۔

ترکیب:۔ مذکورہ بالا تمام ادویات ایک پتیلی میں رکھکر ڈھانک دیں اور رہائشی مکان سے دور اس پتیلی کو آگ پر رکھکر دیں۔ تقریباً نصف گھنٹہ کے بعد پتیلی کو آگ سے اتار لیں۔ اب باریک کپڑے کی مدد سے روغن الگ کرلیں۔ باقی ماندہ فضلے کو پتھر کی کھرل میں پیس کر مثل مرہم بنالیں۔ یہ روغن لقوہ فالج اور درد میں اکیس دن تک استعمال کرنے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ زخم کے اندر لگانے کیلئے مرہم اپنی مثال آپ ہے

منجن۔ پھٹکری ۱۲۵ گرام۔ سوڈا خوردنی ۲۵۰۔ دونوں اشیاء کو باریک پیس کر منجن بنالیں۔ دانتوں کیلئے بہت مفید ہے۔

نسخہ برائے جریان

آرد تمر ہندی میں شکر ملا کر صبح و شام ایک ایک چمچہ استعمال کریں۔

پرہیز:۔ کھٹا، میٹھا و بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔

دیگر:۔ برگد کے کونپل کا دودھ بتاشے میں ملا کر ۴۰ یوم تک کھانے سے جریان ختم ہوجاتا ہے۔

برائے پتھری

جواکھار ۲ بھر روغن کدو آدھ پاؤ۔ دونوں کو ملا کر صبح و شام استعمال کریں۔

دَوا سفید داغ کی

کھانے کی دوا۔ رسوت۔ چاکسو۔ منڈی۔ برہم ڈنڈی، نیل کنٹھی، نیلوفر سرپھوکا۔ صندل سفید۔ صندل سرخ۔ برگ شاہترہ۔ برگ حنا، برگ نیم برگ بکائن۔ جواسا۔ چرائتہ۔ ہموزن یعنی ڈھائی ڈھائی تولہ کوٹ چھان کر برگ بکائن۔ برگ حنا اور برگ نیم میں پیسکر مٹر کے برابر گولی بنا کر صبح و شام دو گولی کو عرق عناب میں گھسکر مریض کو چٹائیں۔ اوپر سے پانی دوا کا پلادیں

پینے کی دوا۔ ہرن کھری ایک سیر۔ چھال نیم ایک سیر۔ منڈی ایک پاؤ چرائتہ ایک پاؤ۔ پرانا گڑ آدھ پاؤ۔ سب کو ایک گھڑا پانی میں بھگو دیں۔ اور آدھ آدھ پاؤ صبح و شام گولی کھاکر پی لیں۔

دوا داغ پر لگانے کی:۔ باکچی ایک پاؤ لیکر تین دن تک دہی کے پانی میں بھگو دیں۔ روزانہ صبح کو پانی بدل کر دوسرا دہی کا پانی ڈال دیں۔ بعدہٗ تین دن کے عرق مکو میں دیسی انجیر کی چھال ایک پاؤ یعنی ہموزن لیکر پیسکر ملائیں پھر پرانا سرکہ میں پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولی بنا کر گھسکر داغ پر روزانہ کئی بار لگائیں۔

گولی دیگر:۔ باکچی۔ صندل سرخ و تخم پنواڑ ہموزن کچا سرکہ میں کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولی بنائیں اور روزانہ کچا سرکہ میں گھسکر داغ پر لگائیں۔ روغن موم ۶ ماشہ۔ مصطگی روغن ۶ ماشہ۔ روغن بابونہ ۱ تولہ ملا کر نیم گرم کرکے جہاں ورم ہو اس پر مالش کریں۔

نسخہ دفعیہ جریان

تل۔ تیکھر۔ تیسی۔ تالمکھانہ۔ گوند۔ گھی۔ دانہ پوستہ سب ادویات کو ہموزن لیکر کوٹ لیں۔ چھان کر شکر کے شیرہ لگا کر مثل حلوہ کے بنا ڈالیں۔ پھر ایک ایک تولہ کا لڈو بنا کر رکھیں صبح کو نہار منہ ایک لڈو کھا کر اوپر سے ایک پاؤ گائے کا دودھ پی لیں۔

پرہیز:۔ بادی۔ قابض اور ریاح پیدا کرنے والی چیزیں یعنی گڑ بھیلی۔ کھٹائی۔ مٹھائی سرخ مرچ اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔

نسخہ ریاح باؤ گولہ

نمک سلیمانی ۱ تولہ۔ نمک مولی ۱ تولہ۔ سہاگہ بریاں ۳ ماشہ نمک شیخ الرئیس ۵ تولہ۔ صعتر فارسی ۳ ماشہ۔ بادیان ۳ ماشہ۔ پودینہ خشک ۳ ماشہ۔ زیرہ سفید ۳ ماشہ زیرہ سیاہ ۳ ماشہ۔ عود غرقی ۳ ماشہ۔ گل سرخ ۳ ماشہ۔ رسوت ۳ ماشہ۔ گوگل ۳ ماشہ۔ دانہ الائچی کلاں ۳ ماشہ۔ تیزپات ۳ ماشہ۔ پیپلہ خشک ۱ تولہ۔ افیون ۳ ماشہ۔ بنسلوچن اکبود ۳ ماشہ ست بادیان ۳ ماشہ۔ ست پودینہ ۳ ماشہ۔ ست اجوائین ۳ ماشہ تربد اکبر آبادی ۱ تولہ۔ دھنیا خشک ۳ ماشہ۔ پوست ہلیلہ زرد ۱ تولہ ہلیلہ کابلی ۱ تولہ۔ ہلیلہ سیاہ ایک تولہ۔ کوٹ چھان کر آب گندنہ سبز ڈھائی تولہ۔ آب کوور۔ عرق گلاب۔ عرق نعناع۔ آب ادرک ملا کر حبوب بنالیں بعد غذا ۶ ماشہ تازہ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔

سفوف ریاح

اجوائن اور شکر ہموزن مقدار خوراک ۶ ماشہ شام کو سوتے وقت اجوائن کو سفوف کر کے چھان لیں بعدہٗ شکر ملائیں پھر ۶ ماشہ پھانک کر تازہ پانی پی لیں۔

حب نزلہ

رومی مصطگی ۱ ماشہ۔ زعفران ۱ ماشہ افیون ۲ ماشہ سب کو کوٹ چھان کر مرچ سیاہ کے برابر گولیاں بنالیں۔ بچوں کو ایک یا دو گولی گھس کر چٹائیں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں مفید ہے۔ منی کے بہنے کو بھی روکتی ہے۔

درازیٔ عمر کا انمول نسخہ

حضرت خواجہ زین الدین کرمانی حسب ذیل معجون تیار کر کے استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں کی لمبی عمر مشہور ہے۔ سو سال کے بعد یہ نسخہ خواجہ محمد ترک کے ہاتھ میں آیا۔ وہ سراندیپ ملک میں تھے۔ اس معجون کو کام میں لاتے تھے۔ ان کی عمر دو سو ۲۰۰ سال سے کم نہیں تھی۔ اجزائے معجون یہ ہے۔

سادج ہندی۔ جوزبان۔ قرنفل۔ بزباز۔ آملہ مقشر۔ زنجبیل دار فلفل۔ گل سرخ۔ سیاہ دانہ ہلیلہ۔ زیرہ ہموزن شکر ملا کر قوام بنالیں۔

روزانہ صبح شام استعمال کریں۔

برائے قوت باہ

(منقول میاں حمید گجراتی)۔ بہمن سرخ۔ بہمن سفید۔ حنز لعلب عاقرقرحا۔ موچرس۔ موصلی سیاہ۔ تخم انٹنگن۔ تالمکھانہ۔ بیج تھکن سنگھاڑا۔ بیخ اسکند۔ فلفل کرد۔ مصطگی رومی۔ زعفران۔ دارچینی تمال پتر۔ الائچی۔ ناگ کیسر۔ مغز بادام۔ مغز اخروٹ۔ مغز پستہ خشک۔ قرنفل۔ کباب چینی۔ اگر۔ سپستان۔ بہیلی۔ اندرجو خار خشک۔ تخم کونچہ۔ چلغوزہ۔ آب گاؤ۔ وخصی نر۔ گنجشک نر فلفل دراز۔ یہ سب دوا کوٹ کر۔ موٹے کپڑے میں چھان کر تین حصہ عسل قوام ملا کر دوا میں ڈالے۔ معجون بنا کر رکھے۔

ہر روز ایک درم سوتے وقت کھائے۔

تیل مقوی دماغ ٹھنڈا

چنبیلی کا تیل ایک چھٹانک۔ عطر صندلی ۱۰ بوند ملا کر سر پر مالش کریں۔

دیگر:۔ تیل خالص تل ایک پاؤ۔ گھی خالص بھینس آدھی چھٹانک ملا کر سر پر مالش کریں۔

برائے عارضۂ شکم:۔ ایک بوتل شکر درخت کے نیچے ببول کی جڑ چھیل کر بوتل میں داخل کرکے زمین کے ایک ہاتھ اندر دفن کر دیں ایک ماہ کے بعد اس جگہ کو کھود کر بوتل نکال لیں۔ تمام شکر مثل شربت ہو جائے گی۔ ایک چمچہ پانی میں ملا کر پئیں۔

ختم شد

برائے صرع:۔ خمیرہ گاؤزباں عنبری۔ جدوار عود صلیب والا ۶ ماشہ نہار منہ کھائیں۔ معجون زبیب سوتے وقت ۶ ماشہ قرص عود صلیب سوتے وقت ایک ایک عدد۔ دواء المسک معتدل جواہر والی عرق گلاب یا عرق بید مشک ۲ تولہ ۵ ماشہ میں حل کرکے دورہ کے وقت پلائیں۔

درد:۔ شیر کی چربی کو درد والی جگہ پر ملیں۔

صرع:۔ ہاتھی کا پیشاب دورہ کے وقت مریض کے ناک میں ٹپکائیں۔ اگر اس عمل سے مریض کو چھینک آگئی تو اس کے ناک سے ایک کیڑا برنگ سفید نکلے گا اسے فوراً ہلاک کر دیں۔ مریض کو مکمل آرام ہو جائے گا

ایضاً:۔ عاقرقرحا باریک سفوف بنا کر شہد میں ملا کر پھینٹ دیں۔ مریض کو صبح و شام ایک ایک چمچہ استعمال کرائیں۔ مریض کے دائیں بازو پر عود صلیب نر و مادہ سفید دھاگہ یا سفید کپڑے میں سل کر باندھیں۔

پرہیز:۔ چاول، دودھ، شیرینی اور بادی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مریض کے سر پر روغن کاہو یا روغن کدو لگوائیں مریض کی ناک میں روغن قولی یا روغن دھتورا ٹپکائیں

منہ سے خون آنا۔ اگر مریض کے منہ سے خون آتا ہے اور باوجود کوشش کے نہ بند ہوتا ہو تو دوبا گھاس کو خوب صاف کرلیں اور سل پر پیس کر چھان کر مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا۔

اگر عورت کو استحاضہ کی شکایت ہے، بند نہیں ہوتا تو گیرو سنگجراحت اور دم الاخوان کو خوب باریک پیس کر سفوف بنالیں، صبح شام دوپہر پانی کے ساتھ کھالیں۔

نسخہ واسطے قوت باہ :- کاپھل کوتھ، تکمر، کافور، مشک، زیرہ سیاہ زیرہ۔ گرج، ہیتھی۔ موچرس۔ بلارو موصلی۔ کیکرو۔ برہماس نیل مل۔ تخم کیونچہ۔ بیج کیلا، تخم سنبھل۔ بیج ستاور۔ اجمول۔ تخم لنکھی، تخم مکھانہ۔ ماش کنجد۔ دھنیا جلیٹھی۔ کجور۔ مازو پھل جوزہ اسکند۔ بہاز مکی۔ اسپند، بھنگرہ سیاہ۔ زنجبیل، پیلاتو مرچ جیٹھا۔ تج پترج۔ الائچی کلاں۔ زاغ کیسر، کدھیر نیا، کنج نل داکھ روسا۔ اندھاہورا۔ سال ملتجا۔ جواکھار۔ ہرے۔ بہیڑا۔ آملہ

نسخہ برائے بواسیر

۱۔ رسوت ۲۵ گرام، مصطگی ۲۵ گرام، گندنا ۲۵ گرام، مصبر ہموزن لیکر کوٹ چھان کر مٹر کے برابر گولیاں بنالیں۔

۲۔ اجوائین خراسانی ۶ ماشہ۔ چوکیہ سہاگہ ۳ ماشہ۔ گول مرچ ۱ تولہ مصبر ۲½ تولہ۔

چوکیہ سہاگہ کو توے پر گرم کرلیں۔ پھر مذکورہ تمام اشیار لعاب گھیکوار میں ملاکر ان سب کو مٹر کے برابر گولی بنالیں رات میں سوتے وقت ۲-۲ گولی کھاکر سوجائیں۔

پرہیز :- ترش، بادی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔

سفوف دمہ :- عود سلیب کو کوٹ چھان کر شکر ہموزن ملالیں اور بچوں کو ۲½ ماشہ۔ بڑوں کو ۴ ماشہ صبح و شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ مردوں اور بچوں کیلئے نر عود سلیب اور عورتوں اور لڑکیوں کیلئے مادہ عود سلیب استعمال کرائیں۔

معجون دمہ و معجون مرگی

عود سلیب ایک حصہ۔ تین حصہ شہد میں پکاکر معجون بنالیں۔ صبح و شام ۴-۴ ماشہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اسمیں بھی نر اور مادہ کا لحاظ رکھیں۔

دوا فلیریا

کوماگی پتی اکیس عدد مرچ سیاہ سات عدد پیسکر چھان لیں اور مریض کو صبح و شام پلائیں۔

تیل سر کے درد کا

کڑوا تیل ایک چھٹانک، رومی مصطگی سوا تولہ تیل میں پکاکر سر میں مالش کریں۔ درد دفع ہوگا۔

دوا جنون دماغ :- قرص اکسیر شفا، دو-دو گولی صبح و شام استعمال کرائیں۔ یا اسرول تازہ پانی میں صبح و شام ۶-۶ ماشہ پیسکر ۲ عدد انڈا، مرچ سیاہ کے ساتھ چھان کر پلائیں۔ یا دھوربڑا ۶ ماشہ ۳ سیاہ مرچ

تیل دفع ریاح

ایک تولہ تیل انڈا نکال کر ایک چھٹانک کڑوا تیل میں پکاکر درد پر مالش کریں

دَوا سپٹنگ :۔ جڑ الیہود ماں کے دودھ میں گھسکر بچے کو صبح و شام پلائیں اور ارنڈ کے پتے پر گھی پوت کر ہلکا نیم گرم کر کے پیٹ پر باندھیں

دوائے ام الصبیان

عود صلیب ۲ رتی۔ جند بید ستر ۲ رتی۔ مشک ۲ رتی۔ سب کو ایک ساتھ ملا کر پیس کر سفوف بنالیں۔ اور ۲ چاول صبح ۲ چاول شام، ماں کے دودھ میں استعمال کرائیں۔

حب سرفہ یعنی پرانی کھانسی کیلئے

افیون خالص پونے دو ماشہ۔ گوند ببول ۳ ½ ماشہ۔ سلارس کندرست، ملٹھی ہر ایک سات سات ماشہ کوٹ پیسکر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنالیں۔ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں سب کیلئے فائدہ بخش ہے۔ گھس کر چٹائیں اوپر سے تازہ پانی یا گرم پانی پلائیں۔ بچوں کو ایک گولی یا نصف۔ بڑوں کو ۲ دو گولی۔

تیل لقوہ وفالج

سوا تولہ تیل انڈا۔ ۵ ماشہ سونٹھ، ایک چھٹانک تیل زیتون سب کو ایک ساتھ پکا کر استعمال کریں۔

سنبل بائی کی دعا اور دوا۔

تین ماشہ اوسنا۔ ڈیڑھ ماشہ لونگ دونوں کو پیس کر دونوں کنپٹی کی طرف لیپ کریں۔ اور دعا اسکن کڑوا تیل پر دم کر کے سر اور پیشانی پر مالش کریں۔ انشاءاللہ شفار ہوگی۔

مخدومی چوکی

نقش برائے ترقی روزگار و دوکان

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم


یا جبرائیل علیہ السلام
یا عزرائیل علیہ السلام
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ
۷۸۶
۸ ۱ ۶
۳ ۵ ۷
۴ ۹ ۲
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ
اٰدَمُ صَفِیُّ اللہِ
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ
مُوْسٰی کَلِیْمُ اللہِ
لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ
اِبْرَاھِیْمُ خَلِیْلُ اللہِ
یا میکائیل علیہ السلام
یا اسرافیل علیہ السلام
حضرت مخدوم سید اشرف
جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

برائے اختلاج قلب :-

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
ھُوَ الَّذِیۡ اَیَّدَکَ بِنَصۡرِہٖ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ اَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِہِمۡ لَوۡ اَنۡفَقۡتَ مَا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا مَّاۤ اَلَّفۡتَ بَیۡنَ قُلُوۡبِہِمۡ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ اَلَّفَ بَیۡنَہُمۡ اِنَّہٗ ھُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

۷۸۶

۱۰	۱۲	۱۹
۱۸	۱۶	۱۴
۱۳	۱۱	۱۵

نقش ۲۰ یہ ہے

اس حساب سے چھ نقطوں کے دو الف بنے ، ہر الف ابجد کے حساب سے ۱ عدد کا مالک ہوتا ہے جو دو الف کے نقطے ہیں۔ لہذا ۱۸+۲/۲۰ ہوا۔

نقش دافع درد سر

۷۸۶

۴	۲	۱
۲	۱	۶
۱۰	۸	۳

پیشانی پر باندھ دیا جائے۔

نقش دافع گردش ایام :-

۳۱۵۰ مرتبہ باوضو پاک لباس پہن کر یَا سُلۡطَانُ پڑھ کر دعا مانگے اول و آخر سو بار درود شریف پڑھے ۔ اور ۴۰ دن بلاناغہ بعد نماز فجر یہ نقش ایک سو پچاس عدد لکھ کر آٹے میں گولی بنا کر دریا میں ڈالے ۔ انشاء اللہ کامیابی ضروری ہے ۔ نقش یہ ہے :-

۷۸۶

بحق یا سلطان

۵۷	۵۰	۵۵
۵۲	۵۴	۵۶
۵۳	۵۸	۵۱

بحق یا سلطان

بحق یا سلطان

↑

نقش برائے الفت و محبت مابین زن و شوہر

۲	۷	۶
۹	ع	۱
۴	۳	۸

لکھ کر بازو پر باندھیں، مجرب و آزمودہ ہے ۔

نقش برائے جملہ حاجات :-

۷۸۶

۱۵	۲۹	۲۶	۲۲
۲۷	۲۱	۱۶	۲۸
۲۰	۲۴	۳۱	۱۷
۳۰	۱۸	۱۹	۱۵

متواتر اکیس ۲۱ دن تک روزانہ نوّے (۹۰) نقش لکھکر دریا برد کرے۔ انشاءاللہ مقاصد میں کامیابی ہوگی

برائے استقرار حمل

اگر زن عقیمہ حکماء کے علاج سے عاجز ہو چکی ہے تو درج ذیل پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تین ماہ کا وقت بھی نہ گذرے گا اور حمل قرار پاجائے گا۔ وہ عمل یہ ہے :-

کالی مرچ ایک پاؤ، اجوائن دیسی ایک پاؤ، دونوں کو ملا کر ایک سفوف تیار کریں اور اس پر ۴۱ مرتبہ سورۂ والشمس پڑھ کر دم کریں اور اسے صبح و شام پانچ پانچ ماشہ روزانہ تین ماہ تک استعمال کرائیں ۔

مطلوب طالب کے قدموں پر :-

نوچندی جمعرات کو

بوقت طلوع آفتاب چوراہے کی خاک شفا کی نیت سے گھر لے آئے اس پر ، مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یَآ اَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَآءَکُمْ بُرْھَانٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَیْکُمْ نُوْرًا مُّبِیْنًا ۝ تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝ پڑھکر دم کریں اور محبوب کے سر پر ڈالدیں۔ محبوب انشاء اللہ مطیع و فرماں بردار ہوگا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

عمل سورۂ فاتحہ برائے جملہ مقاصد

جملہ مقاصد ومہمات میں کامیابی کے لئے

سورۂ فاتحہ باترکیب بہ پابندیٔ نماز پنجگانہ پڑھیں۔

بعد نماز فجر الحمد بالتسمیہ	۲۵ بار	بعد نماز ظہر الحمد بالتسمیہ	۳۰ بار
بعد نماز عصر "	۲۰ بار	بعد نماز مغرب "	۱۰ بار
بعد نماز عشاء "	۲۰ بار		

روزانہ پڑھے۔ انشاء اللہ جملہ حاجات دینی و دنیاوی برآویں۔

برائے شفاء

جملہ امراض سے صحت و شفاء کے لئے روزانہ سو مرتبہ درج ذیل کا ورد رکھیں۔

یَا حَفِیْظُ۔ یَا سَلَامُ۔ یَا حُسَیْنُ عَلَیْہِ السَّلَام۔

حُب کیلئے :۔ ابین میاں بیوی زیادتی محبت کیلئے لکھکر کھلادیں۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰہُ۔ اَللّٰہُ۔ اِلَّا اللّٰہُ۔ اَحَدُ الصَّمَدُ اِلَّا اَحَدُ الصَّمَدُ۔ اَللّٰہُ۔ اَللّٰہُ۔ اَللّٰہُ۔ یَا ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَام ۝

برائے حُب :۔ اپنے عشق میں کسی کو دیوانہ کرنے کے لیے درج ذیل دُعا بیس سو تین (۲۰۰۳) مرتبہ پڑھکر پان پر دم کرکے کھلائے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ۔ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِکَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ۝

دیگر :۔ اکتالیس دانہ مرچ سیاہ پر علیحدہ علیحدہ پڑھ کر آگ میں ڈالتا جائے۔ ہر شخص مہربان ہوگا۔

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَجْعَلْ قَلْبَ فلان ابن فلان مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ عَلٰی حُبِّ فُلَانِ ابْنِ فُلَان

دیگر :۔ سات پھول لے کر سات مرتبہ اس آیت کو پڑھکر دم کرکے سنگھادیں۔ مطلوب قابو میں ہوگا۔

لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَاَلْقَیْنَا عَلٰی کُرْسِیِّہٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ۔ فلان ابن فلان علی حُبِّ فلان ابن فلان

برائے حفاظت اسلحہ در جنگ

: ماہ صفر کے آخری بدھ کو یہ نقش جو بیحد مفید ہے۔ تجربتہً یہ نقش تحریر کرکے گوسفند کی گردن میں باندھیں اور تیغ زن کو حکم دیں کہ وہ گوسفند پر تیغ مارے۔ انشاء اللہ تیغ کا اثر نہ ہوگا۔



برائے حفاظت میدان جنگ :-

اس نقش کو لکھ کر ہمیشہ اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ کبھی محتاج نہ رہے گا۔ لوگ خود صاحب نقش کے ضرورت مند رہیں گے صاحب نقش جنگ میں اگر جائے، بازو پر باندھے، تیغ و تبر کا اثر نہ ہوگا۔ مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اسم است یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یافتاح یافتاح یافتاح یافتاح
یافتاح یافتاح یافتاح یافتاح
یاوہاب یاوہاب
یاوہاب یاوہاب

برائے آسیب :-

دفع آسیب کے لئے یہ نقش موم جامہ کرکے گلے میں پہنا دیں۔ اور اگر عورت ہے تو اس کی چوٹی میں باندھ دیں۔ انشاء اللہ آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا

نقش یہ ہے ←

۷۸۶

یا محمدؐ	یا علیؓ	یا عمرؓ	یا عثمانؓ
یا ابوبکرؓ	یا اللہ	یا ابو اسحاقؒ	یا محی الدینؒ
یا قطب الدینؒ	یا معین الدینؒ	یا فرید الدینؒ	یا عبداللہؒ
لَاۤ اِلٰهَ	اِلَّا اللّٰهُ	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ	اللّٰه

نقش معوذتین :-

برائے سحر و جادو لکھ کر پلایا جائے اور ایک نقش گلے میں ڈال دیا جائے۔ مجرب و آزمودہ ہے۔

۷۸۶

۳۶۸۹	۳۶۸۳	۳۶۸۴	۳۶۹۱
۳۶۹۲	۳۶۸۳	۳۶۹۷	۳۶۸۶
۳۶۹۵	۳۶۸۲	۳۶۹۰	۳۶۸۵
۳۶۸۲	۳۶۹۳	۳۶۸۷	۳۶۹۶

سانپ سے حفاظت :- سوتے وقت سَلَامٌ عَلٰٓی اِلْیَاسِیْنَ پڑھنے سے سانپ گھر میں نہیں آتے۔

برائے دریافتِ حالِ مریض کورے سکورے پر نقش ذیل لکھ کر آگ میں ڈالنے سے قبل مریض کے سر کے چاروں طرف پھرائے۔ پھر آگ میں ڈالے جب سرخ ہو جائے تب نکالے۔ اگر حروف سفید نظر آئے تو اثرِ سحر ہے۔ اگر سرخ ہے تو خبیث و چڑیل، اگر حروف غائب ہوں تو آسیب ہے، اگر سیاہ رنگ ہو تو مریض کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہے۔ نقش یہ ہے۔

۱۱ ۳ ۸ ۱ ۵ ع ۹ ۲ ۴ ح ۱۲ ۱۱ ۳۴

برائے مرگی، سفید مرغ کے خون سے لکھکر مریض کے گلے میں ڈالے۔



فتیلہ حاضری آسیب وغیرہ

۷۸۶

ملیقا ملیقا انت القادر
قدیر علیم ملیقا

۲	۴	۶	۸
۸	۶	۴	۲
۴	۲	۸	۶
۶	۸	۲	۴

علیقا ملیقا انت القادر
[illegible] ملیقا

فتیلہ حضرت سیدنا محذوم اشرف جہانگیر سمنانی الثانی رحمۃ اللہ علیہ فتیلے پر روئی لپیٹ کر نیلا سوت باندھ کر کورے گھڑے پر کورا چراغ رکھکر روشن کرے کچھ خوشبودار پھول، لوبان، شیرینی پاس میں رکھے۔ آسیب زدہ کو روبرو فتیلے کے بٹھادے، برائے تحفظ دو آدمی پاس بٹھادیں۔ تین سو مرتبہ کلمہ طیبہ اول و آخر درود شریف پڑھکر یہ عمل برابر تین دن کریں، نیز جو بھی فتیلے کے پاس وہ روبرو ہووے خوب پاک صاف و باوضو ہونا ضروری ہے۔

پیغام شادی بکثرت آویں

یَآ اَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ ے ذکیلا۔ کہ ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کر ایک ڈبے میں رکھکر گھر میں رکھیں۔ انشاء اللہ لڑکیوں کے پیغام بکثرت آنے لگیں۔ یہ آیت پارہ وَمَنْ یَّقْنُتْ (۲۲) میں ہے۔

دیگر:۔ نقش سورۂ کوثر ۲۲۳ مرتبہ ۱۵ یوم متواتر پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ بار درود شریف یہ نقش لکھکر گھر میں رکھیں۔



بازوبند برائے شفاء دردمنداں:۔

۲۲	ے۱۲	۳۱۱	ے۱۳
دح	عہ	۱۳	ح د
دے	۲	عو	ے۲۳
ع	۳	۱۹	۶

بازوبند حضرت امیرالمومنین مولائے کائنات حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

دردزہ:۔ یہ دعا برائے دردِ زن حاملہ صاف پانی پر دم کرکے پلائیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یَآ اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا عَلِیُّ یَا عَظِیْمُ یَا صَمَدُ یَا فَرْدُ یَا وِتْرُ یَا وَاحِدُ یَا اَحَدُ یَا مُتَکَبِّرُ یَا جَلِیْلُ یَا حَمِیْدُ یَا حَلِیْمُ یَا قَوِیُّ یَا مَتِیْنُ یَا عَزِیْزُ یَا مُعِزُّ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا دَیَّانُ یَا سُبْحَانُ یَا سُلْطَانُ یَا بُرْهَانُ یَا غُفْرَانُ یَا مسندان یَا مُؤْمِنُ یَا مُهَیْمِنُ یَا اَوَّابُ یَا تَوَّابُ یَا وَهَّابُ یَا بَاعِثُ یَا وَارِثُ یَا مِد یَا حَمِیْدُ یَا مَاجِدُ یَا مَجِیْدُ یَا مَعْبُوْدُ یَا اَحَدُ یَا اَکْبَرُ یَا ظَاهِرُ یَا طَاهِرُ یَا مُطَهِّرُ یَا اَوَّلُ یَا اٰخِرُ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ط

برائے دردشکم۔ دردشکم کیلئے تین نقش لکھ کر تین دن کھلادیں۔

مرقوس۔ مرقوس۔ مرقوس ۱۶ استرہ ۱۷ مرموس۔ مرموس۔ مرموس

دریافت اشیاء گم شدہ

اشیاء گم شدہ یا امراض مریض معلوم کرنے کے لئے

یہ نقش لکھ کر مع ولدیت و قومیت اور سکونت بھی تحریر کر دے جو مؤکل اس نقش کے تابع ہے وہ خواب میں پورا پتہ اور مکمل حالت آکر بتائے گا۔ نقش کو دھونی دیکر سرہانے رکھکر سو جائیں۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ



بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ ھُوَ اللّٰہُ اَحد اللہ الصمد لم یلد

وَلم یولد ولم یکن لہٗ کفوًا احد۔

جبرائیل علیہ السلام
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
میکائیل علیہ السلام
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
عزرائیل علیہ السلام
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
اسرافیل علیہ السلام

برائے فرزند نرینہ :۔ عورت جب حیض سے فارغ ہو تین دن برابر روزہ رکھے۔ اور درج ذیل آیت مبارکہ کا ورد ۲۳۶ مرتبہ روزانہ کرے۔ جب تک بچہ حمل میں نہ آجائے ناغہ نہ کرے

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ "یَا مُصَوِّرُ"

فرزند متقی :۔ جو بھی خلوت میں ۲۳۶ مرتبہ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ یَا مَاجِدُ کا ہمیشہ ورد رکھے گا فرزند ضرور ہوگا انشاء اللہ عالم و متقی ہوگا۔

نقش بسم اللہ شریف برائے جملہ عوارض



٦	٧	٢
١	٥	٩
٨	٣	٤

بسم
اللہ
الرحیم
الرحمٰن
الرحیم
الرحمٰن
الرحیم
الرحمٰن
بسم
اللہ
الرحیم
بسم
الرحیم
۱
۴

حاضرات :۔ جب حاضرات کرنا مقصود ہو تو درج ذیل نقش لکھ کر مریض کے ہاتھ میں دے، مریض اس کو بغور دیکھے اور عامل درج ذیل اسم کو پڑھتا رہے۔ جہاں یہ عمل کرے اس جگہ کو پہلے پاک و صاف مٹی سے لیپ کرے اور مریض کے سامنے چراغ روشن کرے۔ مریض کو قبلہ رو بٹھا دے۔ نقش یہ ہے۔

الٰہی بحرمت میران سید محی الدین حاضر گردد حاضر گردد

٨٩ ١١ ٣ دل ٩٩٩٩٢

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔ الٰہی بحرمت میران محی الدین حاضر گردد حاضر گردد۔

دشمنوں سے حفاظت کیلئے

مندرجہ ذیل نقش باندھنے والے کے اوپر کبھی کوئی دشمن ظفریاب نہ ہوگا۔ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ۔ کُلِّ عَدُوٍّ لِّیۡ وَّ صَغِیۡرٍ وَّ کَبِیۡرٍ قَرِیۡبٍ وَّ بَعِیۡدٍ ذَکَرٍ وَّ اُنۡثٰی۔ خَیۡرٍ وَّ عَبۡدٍ اَبۡیَضَ وَّ اَسۡوَدٍ شَاهِدٍ وَّ غَائِبٍ وَّ وَضِیۡعٍ وَّ شَرِیۡفٍ کَافِرٍ وَّ مُسۡلِمٍ لَا یُسَلِّطُ عَلَیۡنَا مَنۡ لَّا یَرۡحَمُنَا وَلَا یُحۡصٰی عَلَیۡكَ شَیۡءٌ مِّنۡ اَمۡرِنَا الضَّامِنُ لَمۡ یَکۡفِهٖ غَیۡرُكَ۔ بِرَحۡمَتِكَ یَا اَرۡحَمَ الرّٰحِمِیۡنَ

برائے فرزند نرینہ:۔ برائے فرزند نرینہ یہ نقش لکھکر باندھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہ برکت تعویذ فرزند نرینہ پیدا ہوگا۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

حی۔ علی۔ علی۔ علی علی۔ علی۔ علی
لہٗ الا۔ لہٗ لہٗ۔ لہٗ۔ لہٗ۔ لہٗ
لہٗ۔ لہٗ۔ ھہ۔ ھہ۔ ھہ۔ ھہ
ھہ۔ ھہ۔ ھہ۔ واہ۔ واہ۔
واہ۔ لہٗ الا۔ لہٗ الا۔ الا۔ الا لس۔ لس۔ لس۔ لس۔ لس۔
لس۔ لس۔ لس۔ لس۔ لس۔

۲۱	۱۸	۱۵
۱۴	۹	۲۰
۱۶		۱۰
۱۱	۱۲	۱۷

عمل حل المشکلات:۔ یَا فَتَّاحُ الَّذِیۡ فَتَحَ کُلَّ اَبۡوَابٍ ایک سو گیارہ بار اول و آخر درود شریف ۱۱۔۱۱ بار پڑھے۔ تین یا سات یا گیارہ دن میں ورنہ زیادہ سے زیادہ ۲۱ روز میں مقصد پورا ہو۔ اس کے لئے وقت بعد نماز عشاء بہتر ہے۔